

صَرِيفُ الْعِلَمِ وَلَمْ

## اوراں کی عدالتیں

مَكْرُرٌ فِضْلُ اللَّهِ

**السوی ایک پروفیسر امام محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی  
الریاض ( سعودی عرب )**

الله اولاً ثم حوار الاشجار ونحوها

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## اوراؤں کی علامتیں

ڈاکٹر فضل الہی

الیسوی ایٹ پروفیسر امام محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی  
الریاض ( سعودی عرب )

ناشر

ادارۃ ترجمان الاعلائیہ کو جعل نوالہ

اشعاعت اول

1998 دسمبر

تعداد

5000

مطبع

موڑوے پر نشراہور

مکتبہ قدوسیہ اردو بازار لاہور

کمپوزنگ و طباعت

## فہرست موضوعات

پیش لفظ

محبت اول : نبی کریم ﷺ کے ساتھ ساری مخلوق سے زیادہ  
محبت کرنے کی فرضیت

تمہید

۱: نبی کریم ﷺ کے ساتھ اپنی جان سے زیادہ محبت کرنے کی فرضیت  
۲: نبی کریم ﷺ کے ساتھ اپنے والد اور بیٹے سے بھی زیادہ محبت کرنے  
کی فرضیت

۳

نبی کریم ﷺ کے ساتھ اہل، مال اور سب لوگوں سے زیادہ محبت  
کرنے کی فرضیت

۴

مخلوق میں سے کسی کے ساتھ نبی کریم ﷺ سے زیادہ محبت کرنے پر  
وعید

محبت دوئم : نبی کریم ﷺ کی محبت کے ثمرات و فوائد

تمہید

۵: آنحضرت ﷺ کی محبت لذت ایمان کا باعث ہے

۶: نبی کریم ﷺ کا محبت آخرت میں آپ ﷺ کے ساتھ ہوگا

محبت سوم : نبی کریم ﷺ سے محبت کی علامتیں

تمہید

۷: نبی کریم ﷺ سے محبت کی علامتوں کے بارے میں قاضی عیاض کا

۲۳

قول

۲ : نبی کریم ﷺ سے محبت کی علامتوں کے بارے میں حافظ ابن حجر  
کا قول

۲۴

۳ : نبی کریم ﷺ سے محبت کی علامتوں کے بارے میں علامہ عینی کا  
قول

۲۵

### نبی کریم ﷺ سے محبت کی پہلی علامت

۲۶

نبی کریم ﷺ کے دیدار اور صحبت کی شدید تمنا

۲۷

تمہید

۲۸

۱ : سفر ہجرت میں رفاقت پیغمبر ﷺ کے میر آنے پر شدت سرت سے  
صدیق رضی اللہ عنہ کارونا

۲۹

۲ : آنحضرت ﷺ کی تشریف آوری پر انصار کی سرت

۳۰

۳ : انصار کو صحبت نبی کریم ﷺ سے محرومی کا اندیشہ

۳۱

۴ : جنت میں محرومی دیدار کے اندیشے کی وجہ سے ایک صحابی کی تشویش

۳۲

۵ : جنت میں آنحضرت ﷺ کی رفاقت کے لیے ربیعہ رضی اللہ عنہ کی  
فرمائش

۳۳

۶ : انصار کا بکریوں اور اونٹوں کے مقابلے میں آنحضرت ﷺ کی صحبت  
کو ترجیح دینا

۳۴

۷ : قاروق رضی اللہ عنہ کی جوار رسول ﷺ میں دفن ہونے کی تمنا

۳۵

۸ : صدیق رضی اللہ عنہ کا نبی کریم ﷺ کے وقتِ رحلت کا اور اک کر  
کے رونا

۳۶

۹ : صدیق رضی اللہ عنہ کا رحلت رسول کریم ﷺ کے بعد آپ کو یاد کر  
کے رونا

۳۷

۱۰ : صدیق رضی اللہ عنہ کی رسول کریم ﷺ کے پاس جلدی چلے جانے

۳۵

کی تمنا

نبی کریم ﷺ سے محبت کی دوسری علامت

۳۹

نبی کریم ﷺ پر جان و مال نچھاور کرنے کی کامل استعداد  
تمہید

۴۰

۱: سلامتی رسول کریم ﷺ کو خطرہ لا حق ہونے پر صدیق رضی اللہ عنہ

۴۱

کارونا

۵۱

۲: مقداد رضی اللہ عنہ کا معرکے میں نبی کریم ﷺ کے پہلو میں جنم کر  
لڑنے کا عزم

۵۲

۳: نبی کریم ﷺ کے لیے گیارہ انصاریوں اور طلحہ رضی اللہ عنہم کی فدا

۵۵

ڈھال بنانا

۵۶

۴: ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ ﷺ کے لیے ڈھال بننا

۵: جاں ثار انصاری کا آنحضرت ﷺ کے قدم مبارک پر خسار رکھے

۵۷

رحلت کرنا

۵۸

۶: زندگی کے آخری لمحات میں سعد بن الربع رضی اللہ عنہ کا سلامتی  
رسول ﷺ کی فکر کرنا

۵۹

۷: ابو ققادہ رضی اللہ عنہ کا آنحضرت ﷺ کو سواری سے گرنے سے  
بچانے کی خاطر رات بھر ان کے ساتھ چلنا

نبی کریم ﷺ سے محبت کی تیسرا علامت

۶۰

۸: آنحضرت ﷺ کے اوامر کی تعمیل اور نواہی سے اجتناب

تمہید

- ۱: حضرات انصار کا حالت رکوع ہی میں چروں کو کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دینا
- ۲: ارشاد رسول کریم ﷺ کی فوری تعمیل میں صحابہ کا ایک دوسرے کے قریب پڑاؤذالنا
- ۳: صحابہ کا تعمیل ارشاد رسول کریم ﷺ میں گھر میلوگدھوں کے ابتدئے ہوئے گوشت سمیت ہائڈیوں کو انڈیل دینا
- ۴: شراب کے اعلان حرمت پر اس کا مدینہ کی گلیوں میں بھاڑ دینا
- ۵: حکم نبوی ﷺ کی تعمیل میں صحابہ کا دشمنوں سے ایفائے عمد
- ۶: صحابہ کا تعمیل ارشاد نبوی ﷺ میں ریشمی مصنوعات سے اجتناب
- ۷: صحابہ کا آنحضرت ﷺ کو جوتے اتارتے دیکھ کر جوتے اتارنے میں جلدی کرنا
- ۸: ایک عورت کا آنحضرت ﷺ سے وعید سن کر سونے کے دونوں کنگن اتار دینا
- ۹: گلی میں چلتے ہوئے عورتوں کے کپڑوں کا آنحضرت ﷺ کے حکم کی تعمیل میں دیواروں سے چھٹنا

نبی کریم ﷺ سے محبت کی چوتھی علامت

سنّت مصطفیٰ ﷺ کی نصرت و تاسید کرنا اور شریعت اسلامیہ کا دفاع کرنا

تمہید

- ۱: انس بن نصر رضی اللہ عنہ کا راہ اللہ تعالیٰ میں اپنی جان کو قربان کرنا اور دوسروں کو اس کی دعوت دینا
- ۲: آنحضرت ﷺ کا پیغام پہنچاتے ہوئے جان فدا ہونے پر حرام رضی

### اللہ عنہ کی خوشی

- ۷۷ : صدیق رضی اللہ عنہ کا رحلتِ رسول کریم ﷺ اور حالات کی سُنگینی کے  
 ۷۹ باوجود جیش اسامہ رضی اللہ عنہ کو روائہ کرنا  
 ۸۰ : سُنگین حالت کے باوجود صدیق رضی اللہ عنہ کا مانعین زکوٰۃ اور  
 ۸۲ مرتدین کے خلاف جہاد  
 ۸۳ : براء رضی اللہ عنہ کا دشمن کے باغ کے اندر سے دروازہ کھولنے کی  
 ۸۴ خاطر اس میں پھینکے جانے کا مطالبہ  
 ۸۵ : معزکہ یرموک میں چار سو مسلمانوں کی موت پر بیعت  
 ۸۶ : اسلامی لشکر کے لیے بڑے قلعے کا دروازہ کھولنے کی غرض سے زیر  
 ۸۷ رضی اللہ عنہ کا اوپر چڑھنا  
 ۸۸ : نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کی اپنی شہادت کے ساتھ مسلمانوں  
 ۸۹ کی فتح کی دعا  
 ۹۰ : راہ اللہ عز و جل میں جانیں فدا کرنے کی خاطر مسلمانوں کا اشتیاق

### ایک ضروری تنبیہ

شانِ مصطفیٰ ﷺ کے بیان میں راہِ اعتدال سے نہ ہٹنا

### خاتمه

۹۱ : کتاب میں بیان کردہ باتوں کا خلاصہ

۹۲ : مسلمانان عالم سے اپیل

۹۳ مصادر و مراجع

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحْمَدُهُ وَنستعينُهُ وَنستغفِرُهُ وَنعوذُ باللهِ مِنْ  
شَرِّورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَن يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضْلِلُ لَهُ،  
وَمَن يَضْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ  
لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَعَلَى آللَّهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.  
 ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آتَقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ، وَلَا تَمُؤْنَ إِلَّا وَآتَشُمْ  
 مُسْلِمُونَ﴾

﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ آتَقُوا رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَآتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ يَعْلَمُ  
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آتَقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحُ لَكُمْ  
أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً  
 عَظِيمًا﴾

آما بعد!

نبی کریم ﷺ کے ساتھ تمام مخلوق سے زیادہ محبت کرنا ہر مسلمان پر  
فرض ہے۔ اور آنحضرت ﷺ کے ساتھ اس طرح محبت کرنے کے دنیا اور آخرت  
میں گراں قدر فائدے اور عظیم ثمرات ہیں۔

لیکن صورت حال یہ ہے کہ بہت سے مسلمان اس بارے میں کوتاہی کا  
شکار ہیں بلکہ ان کی ایک بڑی تعداد آنحضرت ﷺ سے محبت کی حقیقت، اس کے

قاضوں اور علامتوں ہی سے غافل ہے۔

نبی کریم ﷺ سے محبت کے اہم موضوع کے بارے میں صحیح اور حق بات پیش کرنے کے ارادے سے اس کتابچے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے درج ذیل سوالات کے جوابات پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے:

ا: نبی کریم ﷺ سے محبت کا حکم کیا ہے؟

ب: نبی کریم ﷺ سے محبت کے دنیا و آخرت میں کیا فوائد و ثمرات ہیں؟

ج: نبی کریم ﷺ کی محبت کی علامات کیا ہیں؟

د: حضرات صحابہ آنحضرت ﷺ سے محبت کی علامتوں کے اعتبار سے کیسے تھے؟

ه: ہم آنحضرت ﷺ سے محبت کی نشانیوں کے اعتبار سے کیسے ہیں؟

اس موضوع کے متعلق گفتگو کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

محث اول: نبی کریم ﷺ کے ساتھ ساری مخلوق سے زیادہ محبت کرنے کی فرضیت

محث دوئم: نبی کریم ﷺ کی محبت کے ثمرات اور فوائد

محث سوم: نبی کریم ﷺ سے محبت کی علامتیں

اس کے بعد ایک ضروری تنبیہ بعنوان [شانِ مصطفیٰ ﷺ] کے بیان میں راوی اعتدال سے نہ ہٹنا] ہے۔

اور آخر میں خاتمه ہے جس میں کتابچے میں بیان کردہ باتوں کا خلاصہ اور مسلمانان عالم سے اپیل ہے۔

یہ کتاب ابتداء میں مولائے کریم کی توفیق سے عربی زبان میں تحریر کی گئی۔ اب اس کو اردو میں منتقل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اردو ترجمے میں محترم مولانا محمد اسحاق بھٹی صاحب کے مفید اور قیمتی مشوروں سے استفادہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا و آخرت میں بہترین جزا عطا فرمائے آمین۔

کتابچے کی پروف ریڈنگ میں عزیزان القدر حافظ حماد اللہی و حافظ سجاد اللہی نے تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں علم و عمل اور اخلاص اور دین کی خدمت کی سعادت

سے نوازے۔ آمین!

کتابچے کی طباعت کے جملہ مرا حل عزیزان القدر قدوسی برادر ان ابو بکر  
اور عمر فاروق نے شوق، محبت اور اخلاص سے نہیں نہیں بہترین جزاد نیا و آخرت میں عطا فرمائے۔ آمین!  
گنت نواز شات فرمائے اور انہیں بہترین جزاد نیا و آخرت میں عطا فرمائے۔ آمین!  
اللہ حی و قیوم سے عاجزانہ التجا ہے کہ ناکارے کی اس حقیر کوشش کو قبول  
فرمائے۔ میرے لیے، میرے والدین گرامی قدر، اساتذہ کرام اور سب قارئین کے  
لیے ذخیرہ آخرت بنائے اور مجھے، میرے اہل دعیاں، بسن بھائیوں، اعزہ واقارب  
اور سب مسلمان مرد عورتوں کو نبی کریم ﷺ کی سچی محبت نصیب فرمائے۔  
انہ سمیع محیب و صلی اللہ تعالیٰ علی نبینا و علی آلہ و  
اصحابہ و اتباعہ و بارک و سلم۔

فضل اللہی



## محبت اول

## نبی کریم ﷺ کے ساتھ ساری مخلوق سے زیادہ محبت کرنے کی فرضیت

تمہید:

جناب رسول اللہ ﷺ کی محبت ایمان کا جزو لازم ہے۔ قرآن و سنت کی رو سے ضروری ہے کہ ہر شخص کے دل میں جناب نبی کریم ﷺ کی محبت اپنی جان، والد، اہل و عیال، مال و دولت اور دنیا کی سب چیزوں سے زیادہ ہو۔ جس کا دل آپ کے ساتھ اس قسم کی محبت سے محروم ہے، وہ عذاب اللہ کو دعوت دیتا ہے۔ اس پر دنیا میں، یا آخرت میں، یادوں وہی میں عذاب نازل ہونے کی وعید ہے۔ قرآن و سنت میں اس بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا گیا ہے، اس کا مختصر سی تشریع کے ساتھ ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے۔

### (۱) نبی کریم ﷺ کے ساتھ اپنی جان سے زیادہ محبت کرنے کی فرضیت:

جناب رسول کریم ﷺ سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرنے کی فرضیت پر درج ذیل حدیث شریف دلالت کرتی ہے:

روى الإمام البخاري عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي ﷺ و هو آخذ ييد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر رضي الله عنه: ((يا رسول الله! لآنت أحب إلی من كل شيء إلا من نفسي)). فقال النبي ﷺ: ((لا، والذی نفسي بيده! حتى أكون أحب إلیك من نفسك)).

فقال له عمر: ((فإنه الآن والله! لآنت أحب إلی من نفسي)).

فقال النبی ﷺ : ((الآن یا عمر)) <sup>لہ</sup>

امام بخاری حضرت عبد اللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا : ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھے، آپ نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کیا :

”اے اللہ کے رسول! یقیناً آپ مجھے میری جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں۔“

آپ نے فرمایا : ”نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اس وقت تک کہ میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔“

عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی : ”اللہ تعالیٰ کی قسم! یقیناً اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں“

نبی کریم ﷺ نے فرمایا : ”اے عمر! اب بات بُنی ہے۔“

علامہ عینی نبی کریم ﷺ کے قول مبارک [لا] والذی نفسی بیدھا حتیٰ اکون احباب إلیک من نفسک]<sup>۱</sup> کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں : تیر ایمان اس وقت تک کامل نہ ہو گا جب تک تیرے نزدیک میں تیری جان سے بھی زیادہ پیارا نہ قرار پا جاؤں۔<sup>۲</sup>

نبی کریم ﷺ کے ارشاد مبارک [الآن یا عمر]<sup>۳</sup> کی شرح میں علامہ عینی فرماتے ہیں : ”یعنی تمہارا ایمان اب کامل ہوا۔“<sup>۴</sup>

مذکورہ بالاحدیث میں دیگر باتوں کے علاوہ ایک انتہائی قابل توجہ بات یہ ہے کہ جناب رسول صادق و امین ﷺ نے قسم کھا کر بیان فرمایا کہ ایمان کی تکمیل

<sup>۱</sup> ملکہ صحیح البخاری ۵۲۳/۱۱

<sup>۲</sup> ملکہ ملاحظہ ہو: عمدة القارئ ۱۶۹/۲۳

<sup>۳</sup> ملکہ ملاحظہ ہو: مرجع سابق ۱۶۹/۲۳

کے لئے آپ ﷺ کا مومن کو اپنی جان سے زیادہ محبوب و عزیز ہونا ضروری ہے حالانکہ آپ کی ذات گرامی اس درجہ رفع المرتبت ہے کہ آپ قسم نہ بھی کھائیں تب بھی آپ کی ہر بات ٹھیک اور شہ سے بلند و بالا ہے اور جب آپ کوئی بات قسم کھا کر فرمادیں تو وہ بات کتنی زیادہ پختگی ہو گی کیونکہ معلوم ہے کہ قسم کلام کی پختگی پر دلالت کرتی ہے۔<sup>۱</sup>

(۲) نبی کریم ﷺ کے ساتھ اپنے والد اور بیٹے سے بھی زیادہ محبت کرنے

کی فرضیت:

ہر مسلمان پر فرض ہے کہ جناب نبی کریم ﷺ اس کے نزدیک اپنے والد اور اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہوں۔ درج ذیل حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے :

روی الامام البخاری عن ابی هریرة رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: ((فَوَالذِّي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ كَمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ وَالدَّهُ وَوَلَدُهُ)).

امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا : ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ا تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور بیٹے سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤ۔“

اس حدیث میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی قسم کھا کر فرمائی تاکہ امت کے سامنے بات کی پختگی واضح ہو کر ان کے دل کی گمراہی میں اتر جائے۔

اس حدیث شریف کی روشنی میں محدثین کرام نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ حدیث شریف میں جو لفظ [الوالد] فرمایا گیا ہے۔ کیا مال بھی اس میں داخل ہے؟

۱۔ ملاحظہ ہو: عمدة القاري ۱/۴۳

۲۔ صحيح بخاری ۱/۵۸

حافظ ابن حجرؓ نے اس سوال کے جواب میں فرمایا: ”اگر لفظ [الوالد] سے مراد وہ ہے جس کا بچہ ہو تو یہ لفظ باپ اور ماں دونوں کو شامل ہے۔ یا جواب میں یوں کہا جائے گا کہ ماں باپ میں سے ایک کے ذکر کرنے سے دوسرا خود بخود اس میں شامل سمجھا جائے گا۔ جس طرح کہ اضداد میں سے ایک کے ذکر سے دوسرا سمجھا جاتا ہے۔ اس جواب کی روشنی میں [الوالد] کا ذکر کر بطور مثال کیا گیا ہے اور اس سے انتہائی قریبی افراد مراد ہیں۔ تو گویا نبی کریم ﷺ کے فرمان کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ﷺ اس کے انتہائی قریبی لوگوں سے بھی زیادہ پیارے ہوں۔“<sup>۱</sup>

### (۳) نبی کریم ﷺ کے ساتھ اہل، مال اور سب لوگوں سے زیادہ محبت

#### کرنے کی فرضیت:

ہر مسلمان پر لازم ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ سے اپنے اہل و عیال، مال و دولت اور کائنات کے تمام لوگوں سے زیادہ پیارے ہوں۔ اس بات پر درج ذیل حدیث شریف دلالت کرتی ہے:

روی الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : ((لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وما له والناس أجمعين)).<sup>۲</sup>

امام مسلم حضرت انس رضي الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے اہل، مال اور سب لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤ۔“

۱۔ فتح الباری ۵۹/۱

۲۔ صحیح مسلم ۱/۶۷، حافظ ابو یعلیٰ نے بھی اپنی مندی میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔

(ملاحظہ ہو: مسند ابی یعلیٰ ۸/۷)

## (۳) مخلوق میں سے کسی کے ساتھ نبی کریم ﷺ سے زیادہ محبت کرنے پر

وعید:

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لئے وعید ہے جو اللہ تعالیٰ، رسول کریم ﷺ اور جہاد سے زیادہ محبت اپنے باپوں، بیٹوں، بھائیوں، بیویوں، برادریوں، ماں، تجارت یا گھروں کے ساتھ رکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ قُلْ إِنَّ كَانَ أَبَا آؤْكُمْ وَأَبْنَاؤْكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَعَشِيرَاتُكُمْ وَأَقْوَالُ أَقْتَرَفْتُمُوهَا وَتَجَرَّدَتْ تَخْشَونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ أَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَجِهَادَ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي أَلْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ ۱۳

ترجمہ: ”کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہاری برادری، تمہارا امال جو تم نے کمایا ہے، تمہاری تجارت جس کے مندا پڑ جانے سے ڈرتے ہو، تمہارے رہنے کے مکانات جو تمہیں پسند ہیں اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔“

حافظ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ تعالیٰ، اس کے رسول کریم ﷺ اور ان کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو پھر تم اس بات کا انتظار کرو کہ اس کے گوناگون عذابوں میں سے تم پر کس قسم کا عذاب نازل ہوتا ہے۔“

امام مجاہد اور امام حسن اللہ تعالیٰ کے ارشاد [حتیٰ یاتی اللہ بامرہ] کی تفسیر

میں فرماتے ہیں: ”آخر دنیا کی عذاب یا فوری دنیوی عذاب“<sup>۱</sup>

علامہ زمخشری فرماتے ہیں:

”یہ انتہائی خوف ناک آیت ہے اس سے زیادہ خوف ناک آیت تم اور کوئی نہ پاؤ گے۔“<sup>۲</sup>

امام قرطبی کا فرمان ہے:

”یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کریم ﷺ کی محبت کی فرضیت پر دلالت کرتی ہے اور یہ محبت ہر عزیز اور پیاری چیز کی محبت پر مقدم ہے۔“<sup>۳</sup>



۱۔ مانحود از تفسیر القرطبی ۹۵/۸-۹۶

۲۔ تفسیر الكشاف ۲/۱۸۱

۳۔ تفسیر القرطبی ۸/۹۵، نیز ملاحظہ ہو: ایسر التفاسیر للشیخ الجزايري ۲/۱۷۷

## محبت دوسم

# نبی کریم ﷺ کی محبت کے ثمرات و فوائد

تمہید:

یہ تو معلوم ہے کہ نبی کریم ﷺ ہماری محبت کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم ناکارہ لوگ آپ سے محبت کریں یا نہ کریں، اس سے آپ کی عزت و عظمت اور رحمت و بزرگی میں نہ کچھ اضافہ ہو گا اور نہ کسی واقع ہو گی۔ وہ تو کائنات کے خالق، مالک، رازق اور نظام چلانے والے اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں۔ اسی پر بس نہیں بلکہ ان کا مقام و مرتبہ تورب ذوالجلال کے ہاں اتنا عظیم اور بلند ہے کہ جوان کی اتباع کرے وہ اسے بھی اپنا محبوب بنالیتے ہیں اور اس کے گناہ معاف فرمادیتے ہیں۔ مولائے کریم خود ارشاد فرماتے ہیں :

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ۲۱﴾

ترجمہ: ”کہر دیجئے اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطائیں بخش دے گا، وہ بڑا ہی بخشنے والا مر بان ہے۔“

نبی کریم ﷺ سے محبت کا فائدہ محبت ہی کو حاصل ہوتا ہے۔ وہ آپ کی محبت کی وجہ سے دنیا و آخرت میں سرفراز و سر بلند ہوتا ہے۔ ذیل میں اسی موضوع پر قدرے تفصیل سے بفضل رب کریم گفتگو کرتے ہیں :

## (۱) آنحضرت ﷺ کی محبت لذتِ ایمان کا باعث ہے:

اللہ تعالیٰ نے ایمان کی لذت کے حصول کے کچھ اسباب بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ بندہ نبی کریم ﷺ سے ساری مخلوق سے زیادہ محبت کرے۔ درج ذیل حدیث شریف اسی بات پر دلالت کنالا ہے:

روی الشیخان عن أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: ((ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يُحب المرء لا يُحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يُقذف في النار)).

امام بخاری اور امام مسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے روایت کی کہ آپ نے ارشاد فرمایا: ”جس شخص میں تین خصلتیں ہوں وہ ایمان کی لذت سے بہرہ یاب ہوگا:

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے سب سے زیادہ پیارے ہوں، جس سے محبت کرے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، کفر کی طرف پہنچنے کو اسی طرح ناپسند کرے جس طرح آگ میں پھینکنے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔“

ایمان کی لذت سے مراد، جیسا کہ علمائے امت نے بیان فرمایا ہے، ”اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں لذت محسوس کرنا، دین کی خاطر تکالیف برداشت کرنا، اور اسے دنیوی ساز و سامان پر ترجیح دینا ہے۔“

اللہ اکبر! کتنا عظیم الشان اور بیش قیمت ہے یہ صلہ! اے مولاً کریم! ہمیں اس سے محروم نہ فرمانا۔ آمین یا رب العالمین!

## (۲) نبی کریم ﷺ کا محبت آخرت میں آپ ﷺ کے ساتھ ہوگا:

جس شخص نے دنیا میں ایمان کی حالت میں نبی کریم ﷺ سے محبت کی وہ آخرت

لے متفق علیہ: صحیح البخاری ۶۰/۱، صحیح مسلم ۶۶/۱ (الفاظ صحیح البخاری کے ہیں)

میں آپ ﷺ کے ساتھ ہو گا۔ درج ذیل حدیث شریف اس بات کو واضح کرتی ہے:

روی الامام مسلم عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال : (( جاء

رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: (( يارسول الله! متى الساعة؟)).

قال: (( وما أعددت للساعة؟)).

قال: (( حبَّ اللَّهِ وَ رَسُولُهُ)).

قال: (( فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحِبَّتْ)).

قال: أنس رضي الله عنه: (( فَمَا فَرَحْنَا بَعْدَ إِلَّا سَلَامٌ فَرَحًا أَشَدَّ

مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحِبَّتْ)).

قال: أنس رضي الله عنه: (( فَأَنَا أَحِبُّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ أَبَا بَكْرَ وَ عُمَرَ.

رضي الله عنہما فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ وَ إِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ ))<sup>ل</sup>.

امام مسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں

نے فرمایا: ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی:

”قیامت کب ہے؟“

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”تو نے قیامت کے لئے کیا تیار کر رکھا ہے؟“

اس نے عرض کی: ”اللہ اور ان کے رسول کی محبت۔“

نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”بے شک تو اسی کے ساتھ ہے جس کے ساتھ تو نے محبت کی۔“

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”ہمیں اسلام لانے کے بعد کسی بات سے اتنی زیادہ صرت نہ ہوئی جتنی نبی کریم ﷺ کے ارشاد گرامی [فإنك مع من أحببت] (بے شک تو اسی کے ساتھ ہے جس کے ساتھ تو نے محبت کی) سے ہوئی۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے مزید کہا: ”میں اللہ تعالیٰ، ان کے

لے صحیح مسلم ۴/۳۲-۳۳، ۲۰۳۳، امام بخاری نے بھی قریباً ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ملاحظہ ہو صحیح البخاری ۱۰/۵۵۳

رسول ﷺ، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ (آخرت میں) انہی کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میں نے ان کے برابر اعمال نہیں کئے۔“

اسی بات پر دلالت کرنے والی ایک اور حدیث شریف درج ذیل ہے :

رواه الشیخان عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال: ((جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: ((يا رسول الله! كيف تقول في رجل أحب قوماً ولم يلحق بهم؟)).

قال رسول الله ﷺ: ((المرء مع من أحب)).

امام بخاری اور امام مسلم حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا : ایک شخص جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی : ”آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی قوم سے محبت تو کرتا ہے لیکن اس نے اتنے نیک اعمال نہیں کیے جتنے انہوں نے کیے ہیں؟“

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا :

”آدمی اسی کے ساتھ ہے جس کے ساتھ اس نے محبت کی۔“

نبی کریم ﷺ کے ارشاد گرامی [المرء مع من أحب] سے مراد یہ ہے کہ جس کے ساتھ محبت کی اسی کے ساتھ جنت میں ہو گا۔

اللہ اکبر ! نبی کریم ﷺ سے محبت کا شمرہ اور اجر کس قدر عظیم اور شاندار ہے۔

اے اللہ تعالیٰ ! اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کریم ﷺ کی محبت اور اس کا شمرہ ہمارے نصیب میں فرماء۔ آمین یا حی یا قیوم



## محبث سوم

## نبی کریم ﷺ سے محبت کی علامتیں

تمہید:

علمائے امت نے قرآن و سنت کی روشنی میں نبی کریم ﷺ سے محبت کی علامتوں کو بیان فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر قاضی عیاض فرماتے ہیں : ”نبی کریم ﷺ کی سنت کی نصرت و تائید کرنا، آپ پر نازل کردہ شریعت کا دفاع کرنا“ اور آپ کی حیات مبارکہ کے وقت آپ پر اپنی جان و مال فدا کرنے کی غرض سے موجود ہونے کی تمنا کرنا آپ کی محبت میں سے ہے۔“<sup>۱</sup>

اسی بارے میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں : ”نبی ﷺ کی محبت کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اگر نبی کریم ﷺ کی زیارت ممکن ہو اور کسی کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ دنیوی ساز و سامان میں سے کسی چیز کے محروم رہنے اور نبی ﷺ کی زیارت سے محروم رہنے میں سے ایک بات کو پسند کر لے تو آپ ﷺ کی زیارت سے محروم رہنا اس پر کسی بھی چیز کے نہ پانے سے زیادہ گراں اور بھاری ہو۔ اور اگر کوئی اس کیفیت سے محروم ہو تو وہ آپ ﷺ کی محبت سے محروم ہے۔“

علاوہ ازیں آپ کی محبت آپ کی زیارت کے حصول اور اس سے محروم ہونے تک ہی محدود نہیں بلکہ اس میں آپ کی سنت کی حمایت و تائید، آپ پر نازل کردہ شریعت کا دفاع، اور اس کے مخالفوں کی سرکوبی شامل ہے۔ امر بالمعروف اور نهیٰ عن المنکر بھی اس میں داخل ہے۔“<sup>۲</sup>

۱۔ ماخوذ از شرح التووی ۲/۶

۲۔ فتح الباری ۱/۵۹

علامہ یعنی اسی موضوع کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں "اس بات کو اچھی طرح سمجھ لونکہ رسول کریم ﷺ کی محبت آپ ﷺ کی تابعداری کرنے اور نافرمانی ترک کرنے کا ارادہ ہے اور یہ اسلام کے واجبات میں سے ہے۔"

مذکورہ بالا اقوال سے ہم رسول کریم ﷺ کی محبت کی مندرجہ ذیل علامتیں اخذ کر سکتے ہیں :

- ۱ - نبی کریم ﷺ کے دیدار اور صحبت کی شدید تمنا۔
- ۲ - نبی کریم ﷺ پر جان و مال نچحاور کرنے کے لیے ہمہ وقت کامل استعداد۔
- ۳ - نبی کریم ﷺ کے اوامر کی تعمیل اور نواہی سے اجتناب۔
- ۴ - نبی کریم ﷺ کی سنت کی حمایت و تائید اور آپ پر نازل کردہ شریعت کا دفاع۔ جس شخص میں یہ نشانیاں موجود ہوں، وہ اللہ عز و جل کا شکر یہ ادا کرے کہ انہوں نے اس کے سینے میں اپنے حبیب کریم ﷺ کی محبت ڈالی۔ اور اس بات کا ان سے سوال بھی کرے کہ یہ نعمت ہمیشہ اسے میر رہے، اور اگر کسی میں یہ ساری علامتیں یا ان میں سے بعض علامتیں موجود نہ ہوں تو وہ روز حساب سے قبل اپنا محا به خود ہی کر لے کہ اس دن سینوں میں چھپے ہوئے کھوٹ ظاہر ہو جائیں گے۔ وہ اب اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کو دھوکا دینے کی بے کار کوشش نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکا دینے کی کوشش کرنے والا اپنے ہی آپ کو دھوکا دیتا ہے۔

﴿يَخْدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ إِيمَانَهُمْ أَصْنَعُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ ۲

ترجمہ : "اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکا دیتے ہیں حالانکہ وہ خود ہی دھوکے میں پڑے ہیں اگرچہ اس کا شعور نہیں رکھتے" آئندہ صفات میں ان شاء اللہ تعالیٰ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی

سیرتوں کے حوالے سے ان علامتوں کے متعلق گفتگو ہو گی اور حسب ضرورت موجودہ دور کے مسلمانوں کے حالات کے متعلق بھی کچھ اشارات ذکر کئے جائیں گے۔ شاید کہ مولائے رحیم و کریم اپنے حبیب کریم ﷺ کی حقیقی اور پچی محبت ہمارے سینوں میں ڈال کر دنیا و آخرت میں اس کے ثمرات و فوائد سے ہم سیاہ کاروں کو بھی نواز دیں۔ انه سمیع مجیب ہر علامت کے متعلق گفتگو ان شاء اللہ تعالیٰ الگ الگ ہو گی۔



## نبی کریم ﷺ سے محبت کی پہلی علامت

**نبی کریم ﷺ کے دیدار اور صحبت کی شدید تمنا**

تمہید:

سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ محبت کرنے والے کی سب سے بڑی آرزو اور امنگ اپنے محبوب کا دیدار و صالح ہوتی ہے۔ جناب رسول کریم ﷺ سے محبت کرنے والا بھی چہرہ انور کے دیدار اور آپ کی صحبت پاک سے فیض یا بہونے کے لئے بے قرار اور بے چین رہتا ہے۔ اس کی انتہائی تمنا ہوتی ہے کہ اسے نبی کریم ﷺ کی رفاقت حاصل ہو جائے۔ اگر اس کو دنیا کی کسی بڑی سے بڑی نعمت اور نبی کریم ﷺ کے دیدار و صحبت میں سے ایک کو چلنے کا موقع دیا جائے تو اس کی ترجیح بغیر کسی توقف کے آپ ﷺ کا دیدار ہو گی۔ نبی کریم ﷺ کے چہرہ انور کے دیدار اور صحبت پاک سے فیض یا بی سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی اور دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ آپ کے فراق کا خدشہ اسے پریشان و مضطرب کر دیتا ہے اور آپ کی جدائی اس کی آنکھوں سے آنسو روائی کر دیتی ہے۔

ذیل میں جناب رسول کریم ﷺ سے پچی محبت کرنے والوں کے چند ایک واقعات پیش کئے جاتے ہیں تاکہ اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ وہ اس نشانی کے اعتبار سے نبی کریم ﷺ سے کس قدر محبت کرنے والے تھے۔

(۱) سفر ہجرت میں رفاقت پیغمبر ﷺ میسر آنے پر شدت مسرت سے

صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا:

جناب رسول کریم ﷺ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہجرت کے سفر میں اپنا

رفیق سفر بنانے کی بشارت سناتے ہیں۔ یہ سن کر وہ اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اسی واقعہ کی تفصیل درج ذیل حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے:

رویُ الامام البخاری عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ قالت: فبینما نحن يوماً جلوس - في بيت أبي بكر رضي الله عنه في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: ((هذا رسول الله ﷺ متقنعاً)) - في ساعة لم يكن يأتينا فيها - فقال أبو بكر: ((فداء له أبي وأمي، والله! ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر)).

قالت: ((فجاء رسول الله ﷺ فاستأذن، فأذن له، فدخل. فقال النبي ﷺ لأبي بكر: ((أخرج من عندك))).

قال أبو بكر: ((إنماهم أهلك بأبي أنت يا رسول الله!)).  
قال: ((فإني قد أذن لي في الخروج)).

قال أبو بكر: ((الصحابة بأبي أنت يا رسول الله!)).  
قال رسول الله ﷺ : ((نعم)).

امام بخاری زوجہ نبی کریم ﷺ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: ”جب ہم سورج ڈھلنے (زوال) کے وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر بیٹھے تھے کہ کسی نے ان سے کہا: ”رسول کریم ﷺ سر ڈھانپے ہوئے تشریف لارہے ہیں۔“

اور اس وقت ہمارے ہاں تشریف لانا آپ ﷺ کی عادت نہ تھی۔  
ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”ان پر میرے ماں باپ قربان! اللہ کی قسم! اس وقت آپ کی تشریف آوری کسی اہم مقصد ہی کے لئے ہے۔“  
عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا: ”رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور اندر

شریف لانے کی اجازت طلب کی۔

اجازت ملنے پر اندر تشریف لائے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”جو لوگ تمہارے پاس موجود ہیں انہیں باہر بھیجنو۔“

ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: ”اے اللہ کے رسول! میرے باپ آپ پر فدا ہوں وہ تو آپ کے گھروالے ہی ہیں۔“

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”مجھے (کہ مکرمہ سے) نکلنے کی اجازت مل چکی ہے۔“

ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: ”اے اللہ کے رسول! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اس سفر میں آپ کی رفاقت کا طلب گار ہوں۔“

رسول اللہ ﷺ نے جواب میں ارشاد فرمایا: ”ہاں۔“

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہجرت کے اس سفر کے متوقع سنگین خطرات اور مصیبتوں سے بے خبر نہ تھے۔ لیکن ان خطرات کا اندیشہ ان کے اپنے محبوب جناب رسول کریم ﷺ کے رفیقِ سفر بنے کی رغبت و خواہش میں کچھ کمی پیدا نہ کر سکا۔ اور جب آنحضرت ﷺ نے ان کی رغبت پر موافقت کا اظہار فرمایا تو شدت فرح سے ان کی آنکھوں سے آنسو روال ہو گئے۔

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں:

((زاد ابن اسحاق فی روایته : ((قالت عائشة رضی اللہ عنہا : ((فرأیت أبا بکر ییکی؟ وما کنت أحسب أَنَّ أَحدًا ییکی من الفرج)).

امام ابن اسحاق نے اپنی روایت میں یہ اضافہ نقل کیا ہے: عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ”میں نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ رور ہے ہیں۔ اور اس سے پیشتر مجھے اس بات کا تصور نہ تھا کہ خوشی و مسرت کی وجہ سے بھی کوئی رووتا ہے۔“

## (۲) آنحضرت ﷺ کی تشریف آوری پر انصار کی مسrt :

حضرات انصار رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب رسول کریم ﷺ کی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی غرض سے روانگی کی خبر سنی تو وہ انتہائی شوق اور بے تابی سے آپ ﷺ کی تشریف آوری کا انتظار کرنے لگے۔ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں آنحضرت ﷺ کے استقبال کے لیے ان کی بے تابی و شوق اور آپ کی تشریف آوری پر مسrt و شادمانی کا تذکرہ تفصیل سے موجود ہے۔ اس کے متعلق چند روایات پیش کی جاتی ہیں۔

امام بخاری نے حضرت عروۃ بن الزبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے جس میں انہوں نے حضرات انصار کے جانب رسول کریم ﷺ کے استقبال کے لئے شوق و بے تابی اور استقبال کی کیفیت کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا ہے:

((وسمع المسلمين بالمدينة مُخْرِج رسول الله ﷺ من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرّة فيتظرونها حتى يردهم حرّ الظهرة. فانقلبوا يوماً بعد ما أطالوا انتظارهم، فلما أتوا إلى بيوتهم أو في رجل من يهود على أطّم من آطامهم لأمر ينظر إليه، فبصّر برسول الله ﷺ و أصحابه مبيّضين ينزل بهم السراب. فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: ((يامعاشر العرب! هذا جدّكم الذي تستظرون)).

فشار المسلمون إلى المسلاح. فتلقوه رسول الله ﷺ بظهر الحرّة، فعدّل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف)).

مدینہ کے مسلمانوں نے رسول کریم ﷺ کی مکہ سے روانگی کی خبر سنی تو ان کا یہ معمول ہو گیا کہ ہر روز صبح کے وقت مدینہ طیبہ سے باہر الحرّة کے مقام پر آپ ﷺ کے استقبال کے لئے آتے۔ دوپھر کے وقت سورج کی گرمی کی حدت تک انتظار کر کے واپس پہنچتے۔ ایک دن جب کافی طویل

انتظار کے بعد اپنے گھروں کو پلٹئے تو ایک یہودی نے جو اپنے کسی کام کی غرض سے اپنے ایک بیٹے پر چڑھا تھا، رسول کریم ﷺ اور آپ کے ساتھیوں کو سفید کپڑوں میں مبوس دور سے آتے دیکھا۔ یہودی نے بے ساختگی کے عالم میں اوپنجی آواز سے پکارا : ”اے عرب کے لوگو! یہ تمہارے سردار جن کا تمہیں انتظار تھا، آپنچھے۔“

مسلمانوں نے اپنے ہتھیار اٹھائے اور مقام (الحرّة) پر رسول اللہ ﷺ کا استقبال کیا۔ نبی کریم ﷺ نے ان کی معیت میں دائیں جانب کارخ فرمایا اور قبیلہ بنو عمرو بن عوف (کے محلے) میں قیام فرمایا۔“

جناب رسول کریم ﷺ کے استقبال کے لیے انصار کے شوق اور بے تابی کا یہ عالم تھا کہ ہر روز صبح سوریے آپ ﷺ کے استقبال کی غرض سے بستی سے باہر مقام (الحرّة) پہنچتے اور سورج کی شدید حدت تک وہاں بیٹھے انتظار کرتے رہتے امام ابن سعد کی روایت میں ہے :

((فَإِذَا أَحْرَقْتُهُمُ الشَّمْسَ رَجَعُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ)).

”جب سورج کی حدت اور شدت انہیں اذیت پہنچاتی تو وہ اپنے گھروں کو پلاتتے۔“<sup>۱</sup>

امام حاکم کی روایت میں ہے :

((فَيَنْتَظِرُونَهُ حَتَّى يُؤَذِّيَهُمْ حَرًّا الظَّهِيرَةَ)).

”دوپر کی گرمی کے اذیت پہنچانے تک وہاں بیٹھے نبی ﷺ کا انتظار کرتے رہتے۔“<sup>۲</sup>

حضرات انصار کے جناب رسول اللہ ﷺ کے استقبال کی کیفیت امام بخاری نے درج ذیل روایت میں بھی بیان کی ہے :

((عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَانِبَ الْحَرَّةِ ثُمَّ بَعْثَ إِلَى الْأَنْصَارِ فَجَاءُوا إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَبِيهِ بَكْرٍ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِمَا وَقَالُوا : (أَرَكَبَا آمَنَّيْنِ مُطَاعِيْنِ))).

<sup>۱</sup> الطبقات الکبریٰ ۲۲۲/۱

<sup>۲</sup> المستدرک علی الصحیحین ۱۱/۳

فرکب نبی اللہ ﷺ و ابوبکر و حفوا دونہما بالسلاح، فقبل فی المدینة:  
 ((جاء نبی اللہ! جاء نبی اللہ ﷺ)).

فأشروا ينظرون و يقولون : ((جاء نبی اللہ ﷺ))  
 فا قبل يسيراً حتى نزل جانب دار أبي أیوب رضی اللہ عنہ.  
 «انس رضی اللہ عنہ نے روایت نقل کرتے ہوئے فرمایا: رسول اللہ ﷺ  
 نے حرۃ کی جانب پڑاؤڑا۔ پھر انصار کو پیغام بھیجا۔ انصار نبی کریم ﷺ  
 اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ سلام عرض کرنے  
 کے بعد کہنے لگے۔ «آپ دونوں امن کے ساتھ سوار ہو جائیے۔ آپ  
 دونوں کی اطاعت کی جائے گی۔»  
 نبی کریم ﷺ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں سوار ہوئے اور انصار نے مسلح  
 ہو کر دونوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ مدینہ طیبہ میں چہ چاہوا:  
 «اللہ تعالیٰ کے نبی ﷺ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی ﷺ تشریف لائے»  
 لوگ بالاخانوں کے اوپر چڑھ کر آپ کا دیدار کرتے اور کہتے:  
 «اللہ تعالیٰ کے نبی تشریف لائے۔»

نبی کریم ﷺ چلتے رہے یہاں تک کہ ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے مکان  
 کے ایک حصہ میں تشریف فرمائے۔

امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ  
 ﷺ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے استقبال کرنے والے گروہ انصار کی تعداد  
 قریباً پانچ سو تھی۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے۔

((انطلقاً آمنين مطاعين)).

آپ دونوں امن کے ساتھ تشریف لائیے۔ آپ دونوں ہمارے لیے

لے صحیح البخاری ۲۰۰/۷

لے ملاحظہ ہو: الفتح الربانی لترتيب مسنن الامام احمد بن حنبل ۲۹۱/۲۰  
 ورواه الامام البخاری فی التاریخ الصغیر۔ (ملاحظہ ہو: فتح الباری ۲۰۰/۷) ۲۹۲/۲۰  
 البناء مسنداً احمد کی روایت کی صحت تواردیا ہے (ملاحظہ ہو: بلوغ الامانی

قابل اطاعت ہیں۔

مدینہ والوں کے جناب نبی کریم ﷺ کے استقبال کی تصویر کشی امام احمد نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں یوں کی ہے :

”رسول اللہ ﷺ روانہ ہوئے اور میں آپ کے ہمراہ تھا یہاں تک کہ ہم مدینے پہنچے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا۔ وہ راستے میں نکل آئے اور چھتوں پر چڑھ گئے۔ غلام اور بچے (خوشی سے) راستے میں بلند آواز سے کہہ رہے تھے :

”اللّٰهُ أَكْبَرُ! جاءَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ“

”اللّٰهُ أَكْبَرُ! رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ تشریف لائے۔ محمد ﷺ تشریف لائے۔“

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا : ”لوگوں میں اس بات پر جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ آخر خضرت ﷺ کی میزبانی کا شرف کون حاصل کرے۔“<sup>۱</sup> ملے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس دن کے متعلق اپنے تاثرات کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا :

((فَمَا رأيْتَ يوْمًا قطُّ أَنُورٌ وَلَا أَحْسَنَ مِنْ يوْمِ دُخُولِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ وَأَبُوبَكَرَ رضي اللہ عنہ المدینة))<sup>۲</sup>

”میں نے رسول اللہ ﷺ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مدینہ تشریف لانے والے دن سے زیادہ پر نور اور خوب صورت دن کبھی نہیں دیکھا۔“

اہل مدینہ کی جناب نبی کریم ﷺ کی مدینہ تشریف آوری کے موقع پر جو کیفیت تھی، اس کا نقشہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہمانے باہیں الفاظ کھینچا ہے :

((فَمَا رأيْتَ أهْلَ الْمَدِينَةَ فَرَحُوا بِشَيْءٍ فَرَحَهُمْ بِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ))<sup>۳</sup>

<sup>۱</sup> المسند ۱/۱۵۵، شیخ احمد محمد شاکر نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا۔

(ملاحظہ ہو: حاشیہ المسند ۱/۱۵۴).

<sup>۲</sup> روایہ الامام احمد۔ ملاحظہ ہو: الفتح الربانی لترتيب مسند الامام احمد بن حنبل ۲۹۰/۲۰

<sup>۳</sup> ملاحظہ ہو: صحيح البخاری ۷/۲۶۰

”اہل مدینہ“ جس قدر رسول کریم ﷺ کی تشریف آوری پر خوش ہوئے میں نے کسی بات پر انہیں اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا۔“

### (۳) انصار کو صحبت نبی کریم ﷺ سے محرومی کا اندازہ :

جب اللہ رب العزت نے حضرات انصار کو اپنے حبیب کریم حضرت محمد ﷺ کی صحبت کی عظیم نعمت سے نوازا تو وہ اس جلیل القدر نعمت کے چھن جانے کے تصور سے بھی پریشان ہو جاتے۔ اس بات پر کتنی ہی احادیث شریفہ دلالت کرتی ہیں۔ ان احادیث سے ایک حدیث ذیل میں درج کی جاتی ہے :

روی الامام مسلم عن ابی هریرة رضي الله عنه قال: ((أقبل رسول الله ﷺ حتى قدم مكة. فبعث الزبير رضي الله عنه على إحدى المجنَّتين، وبعث خالدًا رضي الله عنه على المجنَّبة الأخرى، وبعث أبا عبيدة رضي الله عنه على الحُسر، فأخذوا بطن الوادي ورسول الله ﷺ في مكة)).

قال : فنظر فرآني ، فقال : ((أبو هريرة)).

قلت : ((لبيك يا رسول الله))

فقال : ((لا يأتيني إلاً أنصاري)).

ثم قال : ((حتى تواافقني بالصفا)).

قال : ((فانتلقنا فيما شاء أحد منا أن يقتل أحداً إلا قتلها، وما أحد منهم يوجه إلينا شيئاً)):

قال : ((فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله! أين كنت خضراء قريش. لا قريش بعد اليوم)).

ثم قال: ((من دخل دار أبي سفيان فهو آمن)).

فقالت الأنصار: ((أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته)).

قال أبو هريرة رضي الله عنه: وجاء الوحي. فلما انقضى الوحي قال رسول الله ﷺ: ((يا معاشر الأنصار)).

قالوا : ((لَبِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ)).

قال : قلتُم : ((أَمَا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قُرْيَتِهِ)).

قالوا : ((قَدْ كَانَ ذَلِكَ)).

قال : ((كَلَّا إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ هاجرتُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكُمْ وَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتِ مَمَاتُكُمْ)).

فَاقْبَلُوا إِلَيْهِ يَكُونُ، وَيَقُولُونَ: ((وَاللَّهُ أَكْبَرُ)) ما قلنا الذي قلنا إِلَّا الصُّنُونَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ)).

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَصْدَقُانَكُمْ وَيَعْذِرُانَكُمْ)).

جب رسول ﷺ کہ تشریف لے گئے تو آپ ﷺ نے زیر رضی اللہ عنہ کو لشکر کے ایک حصے کے سالار کی حیثیت سے، اور خالد رضی اللہ عنہ کو دوسرے حصے کے قائد کی حیثیت سے روانہ فرمایا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ان صحابہ کا سالار مقرر کر کے روانہ فرمایا جو زرہوں کے بغیر تھے اور خود رسول کریم ﷺ کہ میں تشریف فرمائے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے مجھے دیکھ کر فرمایا: ابو ہریرہ!

میں نے عرض کی: ”اے اللہ کے رسول ﷺ! میں حاضر ہوں“ میں حاضر ہوں۔

آپ ﷺ نے فرمایا: ”انصار کے سو امیرے پاس کوئی نہ آئے۔“

پھر فرمایا: ”وہ صفا پر میرے پاس پہنچ جائیں“

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”ہم روانہ ہوئے تو کیفیت یہ تھی کہ ہم جس کو چاہتے تھے قتل کر دیتے اور ان (قریش) میں سے کوئی اپنادفاع کرنے کے بھی قابل نہ تھا۔“

ابو ہریرہ (مزید) بیان کرتے ہیں: ”ابوسفیان آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول :

قبیلہ قریش کا نام و نشان مٹ گیا، آج کے بعد قریش کا وجود ختم ہو جائے گا۔“

آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”ابوسفیان کے گھر میں داخل ہونے والے

کے لیے امن ہے۔ (اس سے تعریض نہ کیا جائے گا)۔“

انصار نے (یہ اعلان سن کر) کہا : ”اپنی بستی کی محبت اور کنبے کی شفقت آدمی (رسول کریم ﷺ) پر غالب آگئی ہے۔“

ابو ہریرہؓ نے کہا : ”وھی آئی، اور وھی کے ختم ہونے پر رسول اللہ ﷺ نے آواز دی۔ ”اے گروہ انصار“

انہوں نے عرض کیا : ”ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔“

نبی کریم ﷺ نے فرمایا : ”تم نے کہا ہے : ”آدمی پر اس کی بستی کی محبت غالب آگئی ہے“

انہوں نے جواب میں کہا : ”ایسے ہی بات ہوئی“

آنحضرت ﷺ نے فرمایا : ”ہرگز نہیں (جو تم نے سمجھا ہے وہ غلط ہے) میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول ہوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر تمہاری طرف ہجرت کی، اب جب تک جینا ہے تمہارے ساتھ۔ اور مرننا ہے تو تمہارے ساتھ۔“

انصار روتے ہوئے آنحضرت ﷺ کی طرف لپکے اور عرض کیا : ”اللہ کی قسم! ہم نے جو بھی کہا اس میں آپ کی محبت کا شدید جذبہ کا رفرما تھا۔“

رسول اللہ ﷺ نے جواب میں ارشاد فرمایا : ”اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول بے شک تمہاری بات کی تصدیق کرتے ہیں اور تمہارا اعزز قبول کرتے ہیں۔“

امام نووی اس حدیث شریف کی شرح میں تحریر کرتے ہیں :

حضرات انصار نے جب نبی کریم ﷺ کی اہل مکہ پر شفقت کا مشاہدہ کیا، اور یہ بھی دیکھا کہ نبی کریم ﷺ نے ان کے قتل سے ہاتھ روک لیا ہے تو انہوں نے خیال کیا کہ اب آپ مکہ ہی میں سکونت اختیار فرمائیں گے، انہیں چھوڑ دیں گے اور مدینہ کو خیر باد کہہ دیں گے، اور یہ بات ان پر گراں گزری۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی رسول کریم ﷺ کو ساری صورت حال سے آگاہ فرمایا۔ اس پر آنحضرت ﷺ نے جو کچھ ان سے فرمایا، اس کا مفہوم یہ تھا :

”میں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر تمہارے شر کی طرف اس لئے ہجرت کی کہ اسے

اپنا وطن بناؤ۔ میں رضاۓ الہی کے حصول کی غرض سے کی ہوئی ہجرت سے پہنچنے والا نہیں بلکہ میں تو اس ہجرت پر کار بند ہوں۔ جب تک زندگی ہے تمہارے ساتھ بسر کروں گا۔ اور مرنا بھی ہے تو تمہارے شہر میں۔”

جب نبی کریم ﷺ نے ان سے یہ بات فرمائی تو وہ رونے لگے اور مخذرات کرتے ہوئے کہا:

ہم نے جو کچھ کما صرف اس غرض سے کما کہ آپ کی صحبت سے ہمیشہ فیض یاب ہوتے رہیں۔ آپ کے ذریعے برکات حاصل کرتے رہیں اور آپ صراط مستقیم کی طرف ہماری راہنمائی فرماتے رہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صَرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾<sup>۱</sup>

ترجمہ: اور یقیناً آپ لوگوں کو سیدھی راہ دکھلاتے رہتے ہیں۔

ان کے رونے کے دو اسباب تھے۔ پہلا سبب آنحضرت ﷺ کا یہ فرمان کہ میرا جینا اور مرنا انہی کے ساتھ ہے۔ دوسرا سبب اس بات کا اندیشہ کہ شاید جناب نبی کریم ﷺ کو ان کے متعلق کوئی ایسی بات پہنچی ہو جوان کے لئے باعث ندامت ہو۔<sup>۲</sup>

(۲) جنت میں محرومی دیدار کے اندیشے کی وجہ سے ایک صحابی کی تشویش:

جناب رسول کریم ﷺ کے ایک اور سچے محبت کو دیکھتے ہیں کہ جب بھی اس کے ذہن میں آنحضرت ﷺ کا اور اپنی موت کا تصور آتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کی پریشانی کا سبب یہ اندیشہ ہے کہ اگر وہ جنت میں داخل ہو بھی گیا تو بھی نبی کریم ﷺ کے چہرہ انور کا دیدار نہ کر سکے گا کیونکہ آپ وہاں حضرات انبیاء کرام کے ساتھ تشریف فرمائیں گے اور وہ کمیں نچلے درجے میں ہو گا۔

اس محبت صادق کا قصہ امام طبرانی نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کے حوالے سے باس الفاظ روایت کیا ہے:

«جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: ((يا رسول الله! إنك لأحب

إِلَيْ مِنْ نَفْسِي، وَ إِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيْ مِنْ وَلْدِي، وَ إِنِّي لَا كُوْنَ فِي الْبَيْتِ فَأَذْكُرْكَ فَمَا أَصْبِرْ حَتَّىٰ آتِيَ فَأَنْظُرْ إِلَيْكَ. وَ إِذَا ذَكَرْتَ مَوْتِي وَ مَوْتَكَ عَرَفْتَ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رُفِعْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَ إِنِّي إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ خَشِيتَ أَنْ لَا أَرَاكَ).

فَلَمَّا يَرَدَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ نَزَلَ جَبَرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهَذِهِ الْآيَةِ:

﴿وَمَنْ يُطِيعَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهِدَاءِ وَالصَّابِرِينَ﴾ ل

ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: ”اے اللہ کے رسول! بلاشبہ آپ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ یقیناً آپ مجھے میرے بیٹے سے زیادہ پیارے ہیں، اور بچی بات ہے کہ گھر بیٹھے آپ کی یاد آتی ہے تو مجھے اس وقت تک چیزوں نصیب نہیں ہوتا جب تک آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر آپ کا دیدار نہ کروں۔ اور جب میں اپنی اور آپ کی موت کا تصور کرتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ آپ جنت میں داخل ہونے کے بعد انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بلند مقام پر ہوں گے اور اگر میں جنت میں داخل ہو بھی گیا تو مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کا دیدار نہ کر پاؤں گا۔“

جبریل علیہ السلام کے مندرجہ ذیل آیت کے ساتھ تشریف لانے تک نبی کریم ﷺ نے اس کے جواب میں کچھ نہ فرمایا:

﴿وَمَنْ يُطِيعَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهِدَاءِ وَالصَّابِرِينَ﴾ ل

ترجمہ: ”اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور رسول کی فرمانبرداری کریں، پس وہ ان لوگوں کے ساتھ (جنت میں) ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔

پیغمبروں سے اور صدیقوں سے اور شہیدوں اور صالحین سے)“

لہ سورة النساء / ۶۹

مجمع الزوائد و منبع الفوائد ۲/۲ حافظ ہیشمی نے اس حدیث کے روایوں کو ثقہ قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: مصدر سابق ۲/۲)

ابن مردویہ، ابو قیم اور ضیاء مقدسی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور ضیاء مقدسی نے اس کے متعلق کہا ہے: ”لا اری یا سنا دہ باسا۔“ (ملاحظہ ہو: حاشیہ زاد المسیر ۲/۱۲۶)

(۵) جنت میں آنحضرت ﷺ کی رفاقت کے لیے حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ کی فرماش:

ایک اور بچے محبت حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ کو فرماش کرنے کا موقع میر آتا ہے۔ ان کی فرماش کیا تھی؟

امام مسلم نے ان کی فرماش کا واقعہ خود انہی کی زبانی یوں بیان کیا ہے:

«كُنْتُ أَبِيَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَتَيْتَهُ بِوْضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، فَقَالَ لِي: ((سُل)).

فقلت : ((أَسْأَلُكَ مِرَافِقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ)).

قال : ((أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ؟)).

قلت : ((هُوَ ذَلِكَ)).

قال : ((فَأَعْنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكْثَرَةِ السُّجُودِ)).

”میں رسول اللہ ﷺ کے پڑوس میں رات بسر کرتا تھا۔ میں آپ ﷺ کی خدمت میں وضو کے لیے پانی اور دیگر ضرورت کی چیزیں لے کر حاضر ہوا تو آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: ”کسی چیز کی فرماش کرو“

میں نے عرض کی: ”میں جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔“

آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”کیا کوئی اور فرماش ہے؟“

میں نے عرض کی: ”صرف یہی ایک فرماش ہے۔“

آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”اس فرماش کے پورا کروانے میں بہت زیادہ سجدے کر کے میرا تعادن کرو۔“

اللہ اکبر! محبت صادق کو فرماش کا موقع میر آیا تو بلا ترد جناب رسول مکرم ﷺ کی جنت میں رفاقت کا سوال کیا۔ دوسری دفعہ موقع دیا گیا تو پھر اسی فرماش کو دہرا یا۔ کسی اور بات کی فرماش کا تصور بھی ان کے ذہن میں نہ آیا۔

## (۶) انصار کا بکریوں اور اونٹوں کے مقابلے میں آنحضرت ﷺ کی صحبت

کوتراجح دینا:

جناب رسول کریم ﷺ کی رفاقت و صحبت کو دیگر چیزوں کے مقابلے میں پسند کرنے کے فیصلے میں حضرت ربعیہ بن کعب اسلمی ضمی اللہ عنہ تھے بلکہ آپ کے دوسرے صحابہ کرام کی حالت بھی یہی تھی۔ غزوہ حنین میں حضرات انصار کے سامنے یہ سوال آیا کہ کیا وہ بکریوں اور اونٹوں کو لے کر اپنے شہر مدینہ طیبہ پلٹنا چاہتے ہیں یا رسول کریم حضرت محمد ﷺ کو لے کر اپنے شہر واپس لوٹنا پسند کرتے ہیں؟ ان سب نے بلا تردید رسول کریم ﷺ کی رفاقت و صحبت کو بکریوں اور اونٹوں کے حصول پر ترجیح دی۔ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ امام بخاری نے حضرت عبد اللہ بن زید بن عاصم ضمی اللہ عنہ کے حوالے سے اسے روایت کیا ہے۔ جس کا ترجمہ درج ذیل ہے:

”جب اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین میں اپنے رسول ﷺ کو مالِ غنیمت عطا فرمایا تو آپ نے وہ مال ان لوگوں میں تقسیم فرمایا جنہیں اسلام پر ثابت قدم رکھنا مطلوب تھا اور انصار کو اس میں سے کچھ نہ دیا۔ انصار کے دلوں میں یہ بات کھنکی کہ لوگوں کو توبال دیا گیا اور انہیں کچھ بھی نہ دیا گیا۔

آنحضرت ﷺ نے انصار کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا:

”اے گروہ انصار! کیا میں نے تمہیں سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے نہ پایا، پھر اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ تم پکھرے ہوئے تھے، میرے ساتھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا۔ تم تنگ وست تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ تمہیں تو نگری عطا فرمائی۔

آنحضرت ﷺ جو بھی فرماتے انصار جواب میں عرض کرتے: ”اللہ تعالیٰ

اور ان کے رسول ﷺ بہت زیادہ احسان کرنے والے ہیں۔” لہ  
آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”اگر تم چاہتے تو کہہ سکتے ہے۔ آپ بھی تو  
ہمارے پاس ایسی ہی حالت و کیفیت میں آئے تھے۔“ لہ  
”کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ لوگ بکریاں اور اونٹ لے کر جائیں۔  
اور تم اپنے گھروں میں نبی ﷺ کو لے کر جاؤ؟“

اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار ہی میں سے ہوتا۔ لوگ کسی بھی وادی کا رخ  
کریں میں تو انصار ہی کی وادی کی طرف جاؤں گا۔ انصار اندر والے اور لوگ  
باہر والے ہیں۔ (انصار تو قربی ہیں اور لوگ دور کے ہیں) میرے بعد تم اپنے  
بارے میں بخل پاؤ گے، پس صبر کرنا یہاں تک کہ حوض پر مجھ سے ملاقات کرو۔“ لہ  
حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ الفاظ ہی ہیں:

”اللّٰهُمَّ ارْحَمْ الْأَنْصَارَ وَ أَبْنَاءَ الْأَنْصَارِ وَ أَبْنَاءَ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ“

”اے اللہ! انصار پر، انصار کے بیٹوں پر، اور انصار کے پوتوں پر رحم فرم۔“

”قال: فبکی القوم حتى أخضلوها لحاهم‘ و قالوا : ”رضينا

لہ حضرت ابوسعید الخدري رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث میں ہے:

” فقالوا: ”ماذا نجبيك يا رسول الله؟“ ولله ولرسوله الممن و الفضل -“

(فتح الباری ۸/۵۰)

انہوں نے عرض کی: ”اے اللہ کے رسول ﷺ! ہم آپ کو کیا جواب دیں؟ ہر قسم کا احسان و  
نوازش تو صرف اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کریم ﷺ کی طرف ہی سے ہے۔“

لہ امام احمد کی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: ((أَفَلَا تَقُولُونَ:  
”جَنَّتًا خَانَفَا فَأَمْنَاكَ وَ طَرِيدَا فَأَوْيَنَاكَ وَ مَحْذُولَا فَنَصَرَنَاكَ“) فقالوا: ”بل المَنْ عَلَيْنَا لَهُ وَلِرَسُولِهِ“. (ملاحظہ ہو: مرجع سابق ۸/۵۱- اس کی سند کو حافظ ابن حجر نے صحیح قرار دیا) تم کیوں نہیں کہتے: آپ  
خوبزدہ تشریف لائے، ہم نے آپ کو امن دیا۔ آپ کو آپ کی بستی سے نکالا گیا، ہم نے آپ کو پناہ  
دی۔ آپ پے سارا ہو کر آئے، ہم نے آپ کی نصرت و تائید کی۔

انہوں نے جواب میں عرض کیا: ”اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول اللہ ﷺ کے  
ہم پر احسانات ہیں۔“

رسول ﷺ قسم و حظاً“

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا: ”لوگ اس قدر روئے کہ ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ اور انہوں نے کہا: ”هم رسول اللہ ﷺ کو اپنی قسم اور نصیب میں پا کر راضی ہوئے۔“

امام ابن القاسم فرماتے ہیں: ”جب آنحضرت ﷺ نے ان پر تقسیم مال کی حکمت بیان فرمائی جوان پر مخفی تھی تو وہ فرماں بردار ہو کر پڑے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ سب سے بڑی غنیمت تو یہ ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کو لے کر اپنی بستی میں لوٹے ہیں۔ وہ نبی مکرم ﷺ کی زندگی اور وفات دونوں حالتوں میں رفاقت کی عظیم دولت میر آنے پر بکریوں، اونٹوں، لوڈیوں اور غلاموں کو یکسر بھول گئے۔“

(۷) فاروق رضی اللہ عنہ کی جوار رسول اللہ ﷺ میں دفن ہونے کی تمنا:

جناب نبی کریم ﷺ کے محبت صادق امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اس دنیا سے کوچ فرمائے ہیں۔ اس وقت ان کی سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ دفن کے لیے انہیں حضرت محمد ﷺ کے پڑوس میں جگہ میر آجائے۔ امام بخاری نے یہ واقعہ روایت کیا ہے۔ اس کا ترجمہ درج ذیل ہے:

عمر بن میمون روایت کرتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”اے عبد اللہ بن عمر! ام المؤمنین عاشر رضی اللہ عنہا کے پاس جا کر کو: ”عمر آپ کو سلام کرتا ہے۔“ میرے لیے امیر المؤمنین کا لقب استعمال نہ کرنا کیونکہ اب میں مومنوں کا امیر نہیں رہا۔ اور ان سے کہنا ”عمر بن الخطاب آپ سے اپنے دونوں ساتھیوں کے پڑوس میں دفناۓ جانے کی اجازت طلب کرتا ہے۔“

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہا نے سلام کیا اور اجازت طلب کی، پھر ان کے

ہاں داخل ہوئے تو وہ پیشی رورہی تھیں۔ عرض کی : ”عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ آپ کو سلام کہتے ہیں اور اپنے دونوں ساتھیوں کے پڑوس میں دفاترے جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔“

انہوں نے جواب میں فرمایا : ”میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی۔ لیکن آج انہیں اپنے پر ترجیح دیتی ہوں۔“

جب وہ واپس پلٹے تو کسی نے کہا : ”یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما واپس پلٹ آئے ہیں۔“

انہوں (عمر رضی اللہ عنہ) نے فرمایا : ”مجھے اٹھاؤ۔“ ایک آدمی نے اپنی طرف سوارا دے کر انہیں اٹھایا تو دریافت کیا : ”کیا خبر لائے ہو؟“ (ابن عمر رضی اللہ عنہما نے) عرض کیا : ”خبر وہی ہے جو امیر المؤمنین کو پسند ہے۔ انہوں نے اجازت دے دی ہے۔“ فرمانے لگے : ”الحمد للہ۔ میری نگاہ میں اس سے اہم کوئی بات نہ تھی۔ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے اٹھا کرو ہاں لے جا کر سلام عرض کرنا اور کہنا : ”عمر بن الخطاب اجازتا نگتا ہے۔“

اگر انہوں (عائشہ رضی اللہ عنہما) نے اجازت دی تو مجھے وہاں داخل کر دینا اگر انہوں نے اجازت نہ دی تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں لے جانا۔“ علی

اللہ اکبر! نبی کریم ﷺ کے سچے محبت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں زندگی کے آخری لمحات میں سب سے اہم بات آنحضرت ﷺ کے پڑوس میں قبر کا حصول ہے۔ اور اللہ در حیم و رحمٰن نے اپنے اس سچے مومن بندے کی آرزو کو پورا فرمایا۔

(۸) صدیق رضی اللہ عنہ کا نبی کریم ﷺ کے وقتِ رحلت کا ادراک کر کے رو نا :

جناب رسول اللہ ﷺ خطبہ ارشاد فرماتا ہے ہیں۔ آپ ﷺ کے محبت صادق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خطبے کے اشاروں اور کنایوں سے اندازہ کرتے ہیں کہ جناب حبیب کریم ﷺ کی رحلت کا وقت قریب آپنچا ہے۔ ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو روایت ہو جاتے ہیں۔ امام بخاری نے اس قصہ کی تفصیل

حضرت ابوسعید الخدرا رضی اللہ عنہ کے حوالے سے باس الفاظ روایت کی ہے :

((خطب رسول اللہ ﷺ الناس قال : (إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عَنْهُ، فَاخْتارَ ذَلِكَ الْعَبْدُ مَا عَنْ دَلْلَه)).

قال : فبکی ابو بکر رضی اللہ عنہ فعجبنا لبکاہ ان یخبر رسول اللہ ﷺ عن عبد خیر، فكان رسول اللہ ﷺ هو المُخَيْر، و كان أبو بکر رضی اللہ عنہ أعلمنا). لہ

”جناب رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا (اس خطبہ میں) آپ ﷺ نے فرمایا : ”بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا اور جو کچھ ان کے پاس ہے دونوں میں سے ایک چیز منتخب کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اس بندے نے وہ چیز پسند کی جو اللہ کے پاس ہے۔“

انہوں (ابوسعید رضی اللہ عنہ) نے بیان کیا : ”ابو بکر رضی اللہ عنہ نے روشنہ کردیا۔ ہمیں ان کے روئے پر تعجب ہوا کہ نبی کریم ﷺ نے ایک بندے کے متعلق بتلایا کہ اسے (دو میں سے ایک چیز منتخب کرنے کا اختیار دیا گیا) (اور انہوں نے روشنہ کردیا)۔

اصل حقیقت یہ تھی کہ رسول اللہ ﷺ کو اختیار دیا گیا تھا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم سب سے زیادہ آنحضرت ﷺ کی بات کو سمجھنے والے تھے۔“

حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی بیان کردہ روایت میں ہے :

((فلم يلقنها الا أبو بکر رضی اللہ عنہ فبکی، فقال: (نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا)).

”ابو بکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی اور نے آنحضرت ﷺ کی بات کو نہ سمجھا۔ وہ (بات کی تھہ کو پہنچ کر) روئے گئے۔ پھر عرض کیا : ”ہم آپ پر اپنے باپ، ماں کیں اور بیٹے شارکرتے ہیں۔“

**(۹) صدیق رضی اللہ عنہ کا رحلت رسول کریم ﷺ کے بعد آپ کو یاد کر کے رونا:**

جناب رسول کریم ﷺ کے اس دنیا سے رحلت کر جانے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ انہیں یاد کرتے تو ان کے آنسو روایات ہو جاتے۔ امام احمد کی روایت کردہ درج ذیل حدیث اس پر دلالت کرتی ہے :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه على هذا المنبر يقول: ((سمعت رسول الله ﷺ في هذا اليوم من عام الأول، ثم استعبر أبو بكر و بكى)).  
ثم قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : ((لم تؤتوا شيئاً بعد كلمة الإخلاص مثل العافية فاسألووا الله العافية))<sup>۱</sup>

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت بیان کرتے ہوئے کہا: ”میں نے اس منبر پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا: ”میں نے گز شتر سال اسی دن رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا۔“

پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ پھر ارشاد فرمایا: ”میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”كلمة إخلاص كے بعد تمہیں عافیت جیسی کوئی نعمت نہیں دی گئی۔ پس تم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔“

اور ایک دوسری روایت میں ہے :

”فخنقته العَبْرَةُ ثلَاثَ مَرَاثِمَ قَالَ: ..... الْحَدِيثُ.  
آنسُوْلَ نَعْلَمُ تَمَّ مَرْتَبَةَ إِنَّ كَيْ آوازَ كَوْدَبَا دِيَا۔ پھر انہوں نے فرمایا..... الحدیث

**(۱۰) صدیق رضی اللہ عنہ کی رسول کریم ﷺ کے پاس جلدی چلے جانے کی تمنا:**

اس بات پر وہ روایت دلالت کرتی ہے جسے امام احمد نے باس الفاظ نقل

۱۔ المسند ۱/۱۰۸-۱۰۹ - شیخ احمد محمد شاکر نے اس حدیث کی اسناد کو صحیح قرار دیا۔

(ملاحظہ ہو: ہامش المسند ۱/۱۰۸)

۲۔ مرجع سابق ۱/۱۷۳ - شیخ احمد محمد شاکر نے اس روایت کی اسناد کو صحیح قرار دیا ہے۔

(ہامش المسند ۱/۱۷۳)

فرمایا ہے :  
عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أبا بكر رضي الله عنه لما  
حضرته الوفاة قال : ((أيَّ يوْمٌ هذَا؟)).  
قالوا : ((يُوْمُ الْإِثْنَيْنِ)).

قال : ((فَإِنْ مِتَّ مِنْ لِيْلَتِي فَلَا تَنْتَظِرُوا بَيْنَ الْغَدَاءِ وَالظَّهَرِ  
الْأَيَّامَ وَاللَّيَالِي إِلَيْ أَقْرَبُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ)).  
جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آپ سنچا تو دریافت کرنے لگے :  
”آج کون سادن ہے؟“

انہوں (گھروالوں) نے جواب دیا : ”سوموار“  
فرمایا : ”اگر آج رات میرا انتقال ہو گیا تو کل تک مجھے موخر نہ کرنا (میری  
تجھیز و تکفین کل پر نہ ڈالنا) بلا شک سارے دنوں اور راتوں سے وہ دن  
اور رات مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں جو رسول اللہ ﷺ کے سب سے  
زیادہ قریب ہیں۔“

اللہ اکبر! حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں دنوں اور راتوں کی  
محبت کا معیار رسول اللہ ﷺ سے ان کا قرب ہے۔

نبی کریم ﷺ کے حقیقی چاہنے والے ان سے اپنے پیار میں، ان کے دیدار  
کے شوق میں، ان کی رفاقت کی تریپ میں، ان کے حصول دیدار کی خوشی میں، ان  
کی صحبت کے پانے کی مسرت میں، ان کی ہم نشینی کو سب باتوں پر ترجیح دینے میں،  
ان کی ہمسایگی کے کھوجانے کے غم، اور ان کی جدائی کے صدمے میں کس طرح  
تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان سب پہلوؤں کے اعتبار سے ہم کیسے ہیں؟ کیا ہم نے  
اسی قسم کی محبت کا رشتہ آنحضرت ﷺ کی بجائے اور چیزوں سے قائم نہیں کر رکھا؟

کیا ایسا ہی ہمارا پیار آپ ﷺ کے بجائے اور چیزوں سے نہیں ہو چکا؟

جناب نبی کریم ﷺ کی محبت کے بلند پانگ دعوے کے باوجود ان چیزوں کے


لہ المسند ۱/۱۷۳۔ شیخ احمد نے اس روایت کی اسناد کو صحیح قرار دیا ہے۔ (ہامش المسند ۱/۱۷۳)

حصول کی خاطر مشقت اٹھاتے اور بہت مال خرچ کرتے ہیں انہیں دیکھنے اور سننے میں عمر عزیز کے ایک بڑے حصے کو برپا کرتے ہیں۔ اسی مشغولیت میں اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق ضائع کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھنے اور سن کر شاداں و فرحان ہوتے ہیں اور اگر ان میں کچھ حصے دیکھنے یا سننے سکیں تو حسرت و افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ ان چیزوں کی محبت میں دیواںگی کا یہ عالم ہے کہ فرمانِ مصطفیٰ ﷺ بھول پکھے ہیں کہ ان چیزوں سے پیار کرنے والے کتنے ہی لوگوں کو زمین میں زندہ دھنسا دیا جائے گا اور ان چیزوں کے کتنے ہی چاہنے والوں کی انسانی صورتوں کو بندروں اور خزیروں کی شکلوں میں بدل دیا جائے گا۔ امام ابن ماجہ حضرت ابوالمالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں :

فَالْرَّسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ((لِيَشْرِبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أَمْتِي الْخَمْرِ)) يَسِمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، يُعْزَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَاذِفِ، يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقَرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، بِلَهِ

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میری امت کے کچھ لوگ شراب کے حقیقی نام کی بجائے دوسرا نام دے کر اس کو ضرور پیسیں گے، ان کے سروں پر گانے بجانے کے سامان بجائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنیادیں گے اور ان میں سے بندرا اور خزیر بنائیں گے۔“

جب ہم نے ایسی ناپسندیدہ چیزوں سے رشتہ محبت استوار کر کھا ہو تو ہمارے اس دعوے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے کہ : ”نبی کریم ﷺ ہمیں سب لوگوں اور سب چیزوں سے زیادہ پیارے ہیں؟“ اور ہمارے اس دعوے سے بارگاہِ الہی میں ہمیں کیا فائدہ ہو گا جو کہ ہمارے ظاہر و باطن سے باخبر ہیں؟



## نبی کریم ﷺ سے محبت کی دوسری علامت

**نبی کریم ﷺ پر جان و مال نچاہور کرنے کی کامل استعداد**

تمہید:

محبت صادق کے دل میں ہمیشہ اس بات کی تڑپ رہتی ہے کہ وہ اپنی جان و مال اور اپنا سب کچھ اپنے محبوب پر نثار کر دے۔ آنحضرت ﷺ سے پچی محبت کرنے والوں کی کیفیت بھی اس سے مختلف نہیں۔ حضرات صحابہ نے تو آپ پر فدائکاری اور قربانی کی عظیم الشان اور ناقابل فراموش مثالیں پیش کیے۔

آنحضرت ﷺ سے پچی محبت کرنے والے لوگ جو آپ کے بعد آئے، وہ اپنے سینوں میں انتہائی شدید حرمت محسوس کرتے ہیں کہ وہ آپ پر اپنی جان و مال نچاہور کرنے کی سعادت سے محروم رہے۔

جناب نبی کریم ﷺ کی محبت کے دعوے میں پچ حضراتِ صحابہ کی قربانی و جاثواری، محبت و تعلق اور ایمان و اخلاص کے چند قابل قدر واقعات ذیل میں پیش کیے جاتے ہیں۔

(۱) سلامتی رسول کریم ﷺ کو خطرہ لاحق ہونے پر صدیق رضی اللہ عنہ کا رونا:

سفر ہجرت میں سراقوہ بن مالک جناب رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تعاقب کرتے کرتے ان کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے۔ آنحضرت ﷺ کی سلامتی کو خطرہ میں دیکھے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ پر یثان اور غمگین ہو جاتے ہیں اور اسی پر یثانی کے سبب ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ امام احمد یہ قصہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما کی زبانی بایں الفاظ

روایت کرتے ہیں :

عن البراء بن عازب رضي الله عنهمما قال : قال أبو بكر رضي الله عنه :

((فارتحلنا والقوم يطلبونا، فلم يدركنا إلا سراقة بن مالك بن جعشن على فرس له. فقلت: ((يا رسول الله! هذا الطلب قد لحقنا)).

فقال: ((لا تحزن إنَّ اللَّهَ مَعْنَا)).

حتى إذا دنا منا فكان بيننا وبينه قدر رمح أو رمحين أو ثلاثة،  
قال: قلت: ((يا رسول الله! هذا الطلب قد لحقنا)). و بكى.

قال: ((لَمْ تَبْكِ؟)).

قلت: ((أَمَا وَاللَّهُ! مَا عَلَى نَفْسِي أَبْكِي، وَلَكِنْ أَبْكِي عَلَيْكِ)).

قال: فدعنا عليه رسول الله ﷺ فقال: ((اللَّهُمَّ اكْفُنْاهُ بِمَا شَتَّتَ))

فساخت قوائم فرسه إلى بطنه في أرض صلد..... الحديث.

حضرت براء بن عازب رضي الله عنهماروايت کرتے ہیں کہ ابو بکر رضي الله عنہ

نے بیان فرمایا: ”ہم رواثہ ہوئے تو لوگ ہمارے تعاقب میں تھے۔ ان میں

سے صرف سراقة بن مالک اپنے گھوڑے پر سوار ہمارے قریب پہنچ گیا میں

نے عرض کیا: ”اے اللہ کے رسول ﷺ! یہ ہمارا تعاقب کرتے ہوئے

ہمارے قریب آپنچا ہے۔“

آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”غم نہ کرو، بل اشک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔“

وہ ہمارے اس قدر نزدیک پہنچ گیا کہ ہمارے اور اس کے درمیان ایک دویا

تین نیزوں کے برابر فاصلہ رہ گیا۔

ابو بکر رضي الله عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا: ”اے اللہ کے رسول ﷺ!

لہ۔ المسند ۱/۱۰۵ - شیخ احمد محمد شاکر نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔

(ملاحظہ ہو: هامش المسند ۱/۱۰۴)

یہ ہم تک آپنچا ہے۔ ”اور (ساتھ ہی) میں رونے لگا۔

آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”تم کیوں روتے ہو؟“

میں نے عرض کی: ”اللہ تعالیٰ کی قسم! میں اپنی جان کو خطرے میں دیکھے کر نہیں رورہا بلکہ آپ کی سلامتی کو خطرے میں دیکھے کر رورہا ہوں۔“

انہوں (ابو بکر رضی اللہ عنہ) نے بیان کیا: ”آنحضرت ﷺ نے اس کے لیے بددعا کرتے ہوئے کہا: ”اے اللہ! جس طرح آپ پسند کریں ہمارے لیے اس کے مقابلے میں کافی ہو جائیے۔“

(نبی کریم ﷺ کی بددعا کے نتیجے میں) اس کے گھوڑے کی ٹانگیں سخت زمین میں پیٹ تک دھنس گئیں۔

(۲) مقدار رضی اللہ عنہ کا معرکے میں نبی کریم ﷺ کے پہلو میں جنم کر لئے کا عزم:

ایک اور جان ثار محبت کو دیکھتے ہیں کہ وہ معرکہ کارزار میں آنحضرت ﷺ کے پہلو میں ڈٹ کر مرنے والے کے لیے مستعد ہے۔ امام بخاری ان کا واقعہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: ”میں نے مقدار رضی اللہ عنہ کا کارنامہ دیکھا جس کا پانا مجھے دنیا کی سب چیزوں سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب کہ آنحضرت ﷺ مشرکوں کے لیے بددعا کر رہے تھے۔ اور عرض کی: ”ہم آپ سے وہ بات نہ کہیں گے جو موئی علیہ السلام کی قوم نے ان سے کی۔ (تم اور تمہارا رب جا کر لڑائی کرو) ہم تو آپ کے دائیں بائیں آگے پچھے ہر جانب سے جنگ کریں گے۔“

میں نے دیکھا کہ اس بات نے نبی کریم ﷺ کے چہرے کو روشن کر دیا اور آپ خوش ہو گئے۔ ”لے

اسی روایت میں حضرت مقدار رضی اللہ عنہ کے جذبہ جان ثاری اور فدا کاری کے اظہار کے ساتھ ساتھ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی آنحضرت ﷺ پر قربان ہونے کی رغبت اور خواہش کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ اور یہ اظہار حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے اس جملے میں ہے : ”میں نے مقدار رضی اللہ عنہ کا ایسا کارنامہ دیکھا جس کا حصول مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔“

حافظ ابن حجر اس جملے کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں : ”اگر حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو اس کارنامے کے حصول اور ساری دنیا کی چیزوں کے لینے میں سے ایک بات منتخب کرنے کا اختیار دیا جائے تو وہ اس کارنامے کے حصول کو ساری دنیا کی چیزوں کے پانے پر ترجیح دیں گے۔“

(۳) نبی کریم ﷺ کے لیے گیارہ انصاریوں اور طلحہ رضی اللہ عنہم کی فدا کاری :

معرکہ احد میں کچھ تیر انداز صحابہ کرام آنحضرت ﷺ کی طرف سے ٹیلے پر مستعین کردہ جگہ کو چھوڑنے کی غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ قریش مکہ کا ایک دستہ خالد بن الولید کی قیادت میں مسلمانوں پر پچھلی جانب سے حملہ کرتا ہے۔ اس اپانک حملے سے مسلمانوں کی صفوں میں اس قدر اضطراب اور کھلبلی پیدا ہوتی ہے کہ ایک موقع پر رسول اللہ ﷺ کے ساتھ صرف بارہ صحابہ رہ جاتے ہیں اور مشرک آنحضرت ﷺ کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ ان حالات میں ان بارہ پچھی محبت کرنے والے جاں ثار صحابہ کرام نے آنحضرت ﷺ کا دفاع کس طرح کیا؟

امام نسائی کی حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کے حوالے سے بیان کردہ روایت میں اس سوال کا جواب موجود ہے۔ جس میں انہوں نے بیان کیا کہ ””معرکہ احد میں جب مسلمان بھگدڑ میں منتشر ہو گئے اور رسول اللہ ﷺ کے ساتھ

صرف گیارہ انصاری اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم رہ گئے تو مشرک آنحضرت ﷺ کے قریب پہنچ گئے۔ آپ نے نگاہ کو بلند فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”قوم (مشرکوں) کا مقابلہ کون کرے گا؟“

حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: ”میں“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم اپنی جگہ پر رہو۔“

انصار میں سے ایک شخص نے عرض کیا: ”میں، اے اللہ کے رسول“

آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم (ٹھیک ہے تم مشرکوں کا مقابلہ کرو)“

اس شخص نے مشرکوں سے لڑائی کی یہاں تک کہ قتل ہو گیا۔ آنحضرت ﷺ نے دیکھا کہ مشرک اسی جگہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”قوم کا مقابلہ کون کرے گا؟“

حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: ”میں“

آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”تم اپنی جگہ پر رہو۔“

ایک انصاری نے عرض کیا: ”میں“

آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم“ (ہاں ٹھیک ہے تم مشرکوں کا مقابلہ کرو)

وہ شخص مشرکوں سے لڑتے ہوئے قتل ہو گیا۔

آنحضرت ﷺ اسی طرح فرماتے رہے اور ہر مرتبہ ایک ایک انصاری سامنے آتے اور اپنے پیش رو کی طرح مشرکوں سے لڑتے ہوئے قتل ہو جاتے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ باقی رہ گئے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قوم (مشرکوں) کا مقابلہ کون کرے گا؟“

حضرت طلحہ نے عرض کیا: ”میں“

حضرت طلحہ نے گیارہ انصاریوں کے بقدر لڑائی کی۔ دوران لڑائی ان کے ہاتھ پر دار ہوا اور ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ انہوں نے کہا: ”حس“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تو (بسم اللہ) کہتا تو فرشتے لوگوں کے سامنے

ہی تجھے اٹھا لیتے۔“

پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو پھیر دیا۔“<sup>۱</sup>

اللہ اکبر! رسول کریم ﷺ سے پچی محبت کرنے والے گیارہ جان شار آپ ﷺ پر اپنی جانوں کو نچاہو رکر دیتے ہیں۔ پھر بار ہویں جان شار آگے بڑھتے ہیں اور ان کی فداکاری کچھ معمولی نہ تھی بلکہ تھا ان کی فداکاری گیارہ پہلے جان شاروں کی جان شاری کے بقدر تھی۔ ان کا ہاتھ رسول اللہ ﷺ کا دفاع کرتے ہوئے شل ہو گیا۔ امام بخاری حضرت قیس رحمہما اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا：“میں نے طلحہ رضی اللہ عنہ کا وہ ہاتھ دیکھا جو کہ رسول اللہ ﷺ کا دفاع کرتے ہوئے شل ہو گیا تھا۔“<sup>۲</sup>

رب محمد ﷺ کی قسم اونہ ہاتھ بڑا خوش نصیب اور پاکیزہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے محبوب اور مقدس ہستی کے دفاع میں شل ہو، اور اس ہاتھ والے کے نصیبوں کا کیا کہنا!

آنحضرت ﷺ کا دفاع کرتے ہوئے صرف ان کا ہاتھ ہی شل نہ ہوا بلکہ سارا جسم چھلنی ہو گیا۔ ان کے جسم پر کم و بیش ستر زخم آئے۔ امام ابو داؤد الطیالسی حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا：“پھر ہم طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے جو کہ ایک گڑھے میں تھے اور ان کے جسم پر تیر و تلوار وغیرہ کے کم و بیش ستر زخم تھے۔“<sup>۳</sup>

حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ جب بھی معركہ احمد کا ذکر فرماتے تو روتے ہوئے فرماتے：“یہ سارا دون طلحہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔“<sup>۴</sup> (اس دن حضرت

۱۔ صحيح سنن النسائي ۶۶۱/۲

۲۔ صحيح البخاري ۳۵۹/۷

۳۔ منحة المعبود في ترتیب مسنده أبي داود الطیالسی ۹۹/۲، نیز ملاحظہ ہو:

فتح الباري ۸۲-۸۳/۷

۴۔ ملاحظہ ہو: منحة المعبود ۹۹/۲

طلحہ رضی اللہ عنہ نے آنحضرت ﷺ کے دفاع کا اعزاز حاصل کر کے بہت زیادہ اجر و ثواب حاصل کیا)

اللہ تعالیٰ حضرت طلحہ، حضرت ابو بکر الصدیق اور نبی کریم ﷺ کے ساتھ پچی محبت کرنے والوں سب حضرات پر راضی ہو جائے۔

(۳) ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا اپنے سینے کو سینہ رسول کریم ﷺ کے لیے

ڈھال بنانا :

معركہ احد ہی میں ہم ایک اور سچے محبت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں جو کہ آنحضرت ﷺ کے سینے کے سامنے اپنے سینے کو بطور ڈھال آگے کرتے ہیں تاکہ دشمن کے تیر آنے پر وہ نشانہ بنیں اور آنحضرت ﷺ کو کوئی گزندہ پنچے۔ امام بخاری اور امام مسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب احد کے دن کچھ لوگ نبی کریم ﷺ کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ہاتھ میں ڈھال سنبھالے ہوئے خود نبی کریم ﷺ کے لیے ڈھال بن گئے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے مزید بیان کیا کہ ”ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے تیر انداز تھے۔ انہوں نے اس دن دو یا تین کمانیں توڑیں“

انہوں نے مزید کہا : ”آدمی تیروں کے ساتھ وہاں سے گزرتا تو نبی ﷺ اس سے فرماتے : ”ابو طلحہ کو اپنے تیر دے دو۔“

انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ ”نبی کریم ﷺ مشرکوں کا جائزہ لینے کے لیے اپنے سر مبارک کو اٹھاتے تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ سے عرض کرتے : ”اے اللہ کے نبی ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ! سر مبارک کونہ اٹھائیے۔ ایسا نہ ہو کہ مشرکوں کا کوئی تیر آپ کو لگ جائے۔ میری چھاتی آپ کی چھاتی کے لیے ڈھال ہے۔“

اللہ اکبر ! آنحضرت ﷺ سے سچی محبت کرنے والا کیا کرتا ہے اور کس بات

لے متفق علیہ : صحیح البخاری ۳۶۱/۷، صحیح مسلم ۱۴۴۲/۳

کی تمنا اور آرزو رکھتا ہے۔

علامہ عینی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ (نحری دون نحرک) کی شرح میں فرماتے ہیں: ”میرا سینہ آپ کے سینے کے لیے ڈھال ہے۔ یعنی میں آپ کے آگے کھڑا ہوں تاکہ دشمن کے تیر آنے پر آپ کے سینے کی بجائے میر سینہ اس کا نشانہ بنے“<sup>۱</sup>

شیخ محمد فواد عبد الباقی اسی جملے کی شرح میں تحریر کرتے ہیں ”یہ دعا یہ جملہ ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بجائے میرے سینے کو دشمنوں کے تیروں کے قریب کرے تاکہ جو تکلیف پہنچو وہ آپ کی بجائے مجھے پہنچے۔“<sup>۲</sup>

### (۵) ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ ﷺ کے لیے ڈھال بننا:

امام ابن اسحاق ایک اور سچے محبت کے بارے میں جن الفاظ میں روایت کرتے ہیں، ان کا ترجمہ یہ ہے:

”ابودجانہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کے لیے اپنے آپ کو ڈھال بنا دیا۔ نیزے ان کی پشت میں پیوست ہوتے رہے لیکن وہ آنحضرت ﷺ پر ابر جھکے رہے۔ یہاں تک کہ بہت سے نیزے ان کی پشت میں پیوست ہو گئے۔“<sup>۳</sup>

اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ”انہوں نے (نیزوں کے لگنے کے باوجود) حرکت تک نہ کی۔“<sup>۴</sup>

اللہ اکبر! کون سی وہ قوت تھی جس نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو نیزوں کے ان کی پشت میں پیوست ہونے کے باوجود رسول اللہ ﷺ پر ڈھال بنے جھکائے رکھا یہاں تک کہ انہوں نے حرکت تک نہ کی؟ بلا شک و شبہ یہ نبی

۱۔ عمدة القاري ۱۶/۶۷۴

۲۔ هامش صحيح مسلم ۳/۴۴۳

۳۔ السیرۃ النبویة لابن حشام ۳/۳۰، نیز ملاحظہ ہو: السیرۃ النبویة لابن حبان

البستی ۲۲۴، تاریخ الاسلام (المغازی) للذہبی ص ۱۷۲-۱۷۵

۴۔ جوامع السیرۃ لابن حزم ص ۱۶۲، نیز ملاحظہ ہو: زاد المعاد ۳/۱۹۷

کریم ﷺ کی بھی محبت تھی جو ان کے دل میں جاگزیں ہو چکی تھی۔ اور اسی محبت کی وجہ سے ان کے دل میں جذبہ صادق موجزن تھا کہ آنحضرت ﷺ کی سلامتی کی خاطر اپنی جان نچحاور کر دی جائے۔

## (۶) جان شمار انصاری کا آنحضرت ﷺ کے قدم مبارک پر خسار رکھے

رحلت کرنا:

سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں ایک اور بچے محبت رسول کریم ﷺ کا قصہ ذکر کیا گیا ہے جو آنحضرت ﷺ کے دفاع کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے اور جب اس کی روح کے جسم سے پرواز کرنے کا وقت آتا ہے تو اس کے رخسار نبی کریم ﷺ کے قدم مبارک پر تھے۔ امام ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جب مشرک (غزوہ احمد میں) آنحضرت ﷺ کے قریب پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا: ”ہمارے لیے اپنی جان کون بیچتا ہے؟“

زیاد بن السکن رضی اللہ عنہ سمیت پانچ انصاری آگے بڑھے۔

بعض راویوں نے کہا: ”زیاد بن السکن کی بجائے عمارہ بن یزید بن السکن تھے“ وہ پانچوں انصاری ایک ایک کر کے رسول اللہ ﷺ کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جانوں کو شمار کرتے رہے یہاں تک کہ زیاد یا عمارہ رضی اللہ عنہ رہ گئے۔ وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ زخموں نے انہیں گرا دیا۔ پھر مسلمانوں کا ایک گروہ پلٹا اور انہوں نے وہاں سے ان کو ہٹا دیا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”انہیں میرے قریب کرو۔“

لوگوں نے انہیں قریب کیا تو نبی کریم ﷺ نے ان کی طرف اپنا قدم بڑھایا تاکہ وہ اس پر اپنا سر رکھ لیں۔ پھر ان کی موت کا وقت آپنچا اور ان کا رخسار رسول اللہ ﷺ کے قدم مبارک پر تھا۔ ”لے

مله السیرۃ النبویۃ لابن حشام ۲۹/۳، نیز ملاحظہ ہو: السیرۃ النبویۃ لابن حبان البستی ص ۲۲۳-۲۲۴، تاریخ الاسلام (المغاری) للذهبی ص ۱۷۳

اللہ اکبر! یہ موت کس قدر لذت افروز اور قابل رشک تھی۔

## (۷) زندگی کے آخری لمحات میں سعد بن الربيع رضی اللہ عنہ کا سلامتی

رسول کریم ﷺ کی فکر کرنا:

معرکہ احمد کے زخیوں میں سے ایک اور محبت صادق کو دیکھتے ہیں کہ ان کے جسم پر تیر، تلوار اور خنجر کے ستر کاری زخم ہیں اور ان کے اس دارفانی اور اس میں موجود اہل و عیال اور مال و متاع سے جدا ہونے میں چند لمحات باقی ہیں ان آخری لمحات میں انہیں کس بات کی فکر تھی؟

اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے امام حاکم کی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت کردہ حدیث پڑھتے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”معرکہ احمد کے دن رسول اللہ ﷺ نے مجھے سعد بن الربيع کی تلاش میں روانہ کیا اور فرمایا: ”اگر سعد مل جائے تو اسے میرا سلام کہنا۔ اور اس سے کہنا کہ رسول اللہ ﷺ دریافت کر رہے ہیں: ”تم کیسے ہو؟“

حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا: ”میں مقتولین میں گھومتے گھومتے ان تک پہنچا تو ان کی زندگی کے آخری سانس تھے۔ اور ان کے جسم پر تیر، تلوار اور نیزے کے ستر زخم تھے میں نے ان سے کہا: ”سعد! رسول اللہ ﷺ تجھے سلام کہتے ہیں اور تمہاری کیفیت کے متعلق دریافت فرمارہے ہیں۔“

حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: ”رسول اللہ ﷺ پر سلام اور تجھ پر سلام۔ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں میری طرف سے عرض کرنا: ”میں جنت کی خوبیوں پار ہوں۔ اور میری قوم انصار سے کہنا: ”اگر تمہاری زندگی میں رسول اللہ ﷺ تک دشمن پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا۔“

حضرت زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا: ”پھر ان کی روح ان کے جسم سے پرواز کر گئی۔ رحمہ اللہ تعالیٰ۔“

اللہ اکبر! زندگی کے آخری لمحات میں اس پچھے محبت کو کس بات کی فکر دامن گیر تھی؟ انہیں کس بات کا اس وقت سب سے زیادہ اہتمام تھا؟ اس دنیا اور اس میں موجود اہل و عیال اور مال و متاع سے جدا ہوتے وقت انہوں نے اپنی قوم کو کس بات کی وصیت کی؟<sup>۱</sup>

جس بات کی انہیں فکر تھی وہ اپنے محبوب اور محبوب رب العالمین ﷺ کی سلامتی تھی۔ اور اپنی قوم کو جوانہوں نے وصیت کی وہ یہی تھی کہ ان کی قوم کا ہر فرد آنحضرت ﷺ کی سلامتی کی خاطر اپنی جان نچھاوار کر دے۔

کیا ہمارا انداز فکر اور طرزِ عمل بھی یہی ہے؟ ہمیں کہنے والوں کی فکر دامن گیر ہے؟ ہماری سوچ کا مرکز و محور کیا ہے؟ اعزہ واقارب اور احباب کو مغرب و مشرق کی طرف الوداع کرتے ہوئے کیا فرمائشیں کرتے ہیں؟ کیا بہت سی فرمائشیں ایسی نہیں کہ ان کا زبان پر ذکر لانا بھی ایک مسلمان کے لیے باعث شرم ہے؟

(۸) ابو قادہ رضی اللہ عنہ کا آنحضرت ﷺ کو سواری سے گرنے سے بچانے

کی خاطرات بھران کے ساتھ چلنا:

رسول کریم ﷺ کی محبت کی دوسری علامت کے متعلق اپنی گفتگو ایک اور محبت صادق کے قصے کے نقل کرنے کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ جنہوں نے جب آنحضرت ﷺ کو دیکھا کہ وہ رات کے وقت سواری پر سوار ہیں اور اوپرگھ کے غلبے کی وجہ سے سواری سے گرنے کا اندیشہ ہے تو ساری رات آنحضرت ﷺ کے پہلو میں چلتے رہے تاکہ انہیں گرنے سے محفوظ کر سکیں۔ انہی کا یہ واقعہ امام مسلم نے انہی کے حوالے سے اپنی کتاب صحیح مسلم میں روایت کیا ہے۔ اس محبت صادق کا اسم گرامی ابو قادہ رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں: ”رسول اللہ ﷺ نے ہمیں

لـ المستدرک على الصحيحين ۲۰۱/۳ نیز ملاحظہ ہو: موطا الإمام مالک ۴۶۶-۴۶۵، السیرة النبوة لابن هشام ۳۸-۳۹، السیرة النبوة الصحيحة للدكتور اکرم ضباء العمری ۳۸۶/۲

خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا: ”دن کا آخری حصہ اور رات چل کر تم کل ان شانع اللہ پانی پر پہنچ جاؤ گے“

اس پر لوگوں نے اس طرح چلنا شروع کیا کہ کوئی بھی دوسرے شخص کی طرف متوجہ نہ ہوتا تھا۔

ابوقادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا: ”رسول اللہ ﷺ چلتے رہے اور میں آپ کے پہلو میں تھا یہاں تک کہ آدمی رات ہو گئی۔

پھر رسول اللہ ﷺ اونگھے اور اپنی سواری کے ایک طرف جھک گئے۔ میں نے قریب ہو کر آپ کو بیدار کئے بغیر آپ کو سیدھا کیا تو آپ سیدھے ہو گئے۔ پھر آنحضرت ﷺ چلتے رہے یہاں تک کہ جب رات کا زیادہ حصہ گزر گیا تو آپ سواری کے ایک طرف جھک گئے۔

میں نے بیدار کیے بغیر آپ کو سیدھا کیا تو آپ سیدھے ہو گئے۔

آنحضرت ﷺ چلتے رہے یہاں تک کہ سحری کے آخری حصے میں پھر سواری کے ایک طرف جھک گئے اور آنحضرت ﷺ کا اس مرتبہ جھکنا پہلے دونوں مرتبہ جھکنے سے زیادہ تھا۔ میں نے قریب ہو کر آپ کو سمارا دیا۔ آپ نے سرا اٹھایا اور فرمایا: ”یہ کون ہے؟“

میں نے عرض کیا: ”ابوقادہ“

آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم اس طرح کب سے میرے ساتھ چل رہے ہو؟“

میں نے عرض کیا: ”رات بھر سے اسی طرح آپ کے ساتھ چل رہا ہوں“

آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کے نبی کی حفاظت کرنے کے صدر میں اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے۔“

سبحان اللہ! حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ کو بیک وقت آنحضرت ﷺ کی سلامتی اور راحت کا کس قدر فکر اور اہتمام تھا۔ آپ کی حفاظت کی غرض سے

ساری رات آپ کے پہلو میں چلتے رہے اور جب بھی اوپنگ کے غلبے کی وجہ سے  
نبی ﷺ نیچے گرنے لگتے تو اس طرح سارا دیتے کہ آپ گرنے سے محفوظ بھی ہو  
جائیں اور آپ کے آرام اور نیند میں بھی خلل واقع نہ ہو۔ رضی اللہ عنہ و  
ارضاه



## نبی کریم ﷺ سے محبت کی تیسری علامت

**آنحضرت ﷺ کے اوامر کی تعمیل اور نواہی سے اجتناب**

تمہید:

اس بارے میں دورائیں نہیں کہ محبت اپنے محبوب کی بات مانتا ہے۔ ہر وہ عمل جو اس کے محبوب کو پسند ہو وہ اس کے کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے اور ہر وہ کام جسے اس کا محبوب ناپسند کرے اس سے وہ دور رہتا ہے۔ محبوب کی بات مانے میں وہ ناقابل بیان لذت اور لطف محسوس کرتا ہے۔ رسول کریم ﷺ سے محبت کرنے والا بھی آپ ﷺ کی اطاعت کا شدت سے خواہش مند ہوتا ہے۔ وہ آنحضرت ﷺ کے احکام کی تعمیل، اور آپ کی منع کردہ باتوں سے اجتناب کے لیے بے حد کوشش رہتا ہے۔ حضرات صحابہ کے، جو نبی کریم ﷺ سے سچی محبت کرنے والے تھے، کتنے ہی واقعات اس پر دلالت کنائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ذیل میں ان کے چند ایک واقعات بیان کیے جا رہے ہیں:

(۱) حضرات انصار کا حالت رکوع ہی میں چھروں کو کعبہ باللہ کی طرف پھیر دینا:

امام بخاری حضرت البراء رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: جب رسول اللہ ﷺ مدینہ تشریف لائے تو سولہ سترہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ (لیکن) آپ (نماز میں) کعبہ کی طرف رخ کے پھیرے جانے کو پسند کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ (آیت شریفہ) نازل فرمائی:

﴿فَذَرْنَّا تَقْلُبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّنَّكَ قِبْلَةً﴾ ۱

ترجمہ: ”بے شک ہم تیرا چہرہ بار بار آسمان کی طرف کرنا دیکھ رہے ہیں جو قبلہ تو پسند کرتا ہے البتہ ہم تجھ کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے“

(اس آیت شریفہ کے ذریعے) آپ ﷺ کا چہرہ کعبہ کی طرف پھیرا گیا۔ ایک شخص آپ ﷺ کے ساتھ نماز عصر ادا کر کے نکلا تو انصار کے ایک گروہ کے پاس سے اس کا گزر ہوا۔ اس نے ان سے کہا: ”وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور آپ مکار خ اقدس کعبہ کی طرف پھیر دیا گیا ہے۔“ یہ سن کر ان حضرات نے نماز عصر میں رکوع کی حالت ہی میں اپنے چروں کو (کعبہ کی طرف) موڑ لیا۔

رسول اللہ ﷺ کے حکم کی تعمیل میں ان پاک باز اور مقدس حضرات نے کس قدر جلدی کی، جب انہیں آپ کے متعلق معلوم ہوا کہ آپ نے نماز میں چہرہ مبارک کو کعبۃ اللہ کی طرف موڑ لیا ہے تو انہوں نے بغیر کسی ادنیٰ ترددا اور تاخیر کے اس پر عمل کیا۔ رکوع سے سراٹھانے کی معمولی تاخیر کو بھی گوارانہ کیا بلکہ حالت رکوع ہی میں اپنے چروں کو کعبۃ اللہ کی طرف پھیر لیا۔

(۲) ارشاد رسول کریم ﷺ کی فوری تعمیل میں صحابہ کا ایک دوسرے کے

### قریب پڑاؤ ڈالنا:

حضرات صحابہ آنحضرت ﷺ کے حکم کی فوری تعمیل صرف نماز ہی سے متعلقہ مسائل میں نہ کرتے بلکہ زندگی کے دیگر شعبوں میں بھی ان کی کیفیت ایسی ہی تھی۔ آداب سفر کے بارے میں آنحضرت ﷺ کے حکم کی فوری تعمیل کے متعلق امام ابو داؤد نے حضرت ابو ثعلبہ الغشنسی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت ابو ثعلبہ الغشنسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”لوگوں کا یہ دستور تھا کہ جب سفر میں کسی مقام پر پڑاؤ ڈالتے تو گھائیوں اور وادیوں میں بکھر جاتے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس بارے میں فرمایا: ”تمہارا گھائیوں اور وادیوں میں

اس طرح منتشر ہونا یقیناً شیطان کی طرف سے ہے۔“

اس کے بعد جہاں کہیں بھی آنحضرت ﷺ نے پڑاؤ ڈالا، صحابہ ایک دوسرے سے اس قدر قریب ہوتے کہ کہا جاتا : ”اگر ان سب کے اوپر چادر بچھائی جائے تو سب اس کے نیچے آ جاتے۔“

ذرائع کریں! رسول کریم ﷺ نے حضرات صحابہ کے پڑاؤ ڈالنے میں انتشار کو گوارانہ فرمایا اور آج امت اسلامیہ زندگی کے ہر شعبے میں انتشار کا شکار ہو چکی ہے۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون

(۳) صحابہ کا تعمیل ارشاد رسول کریم ﷺ میں گھر بیو گدھوں کے ابتنے ہوئے

### گوشت سمیت ہانڈیوں کو اندھیل دینا :

آنحضرت ﷺ حضرات صحابہ کو ان کی مرغوب اور پسندیدہ چیزوں اور باتوں سے روکتے تو ان کا رد عمل ان چیزوں اور باتوں سے یکسر اور یک لخت دور ہونے کے سوا اور کچھ نہ ہوتا۔ ان پاک باز شخصیات کی سیرتوں میں اس قسم کے کتنے ہی دلائل و شواہد موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک واقعہ وہ ہے جو امام بخاری نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا: (گھر بیو) گدھے کھائے گئے۔“

نبی ﷺ پھر خاموش رہے۔ وہ شخص دوسری مرتبہ حاضر ہوا اور عرض کیا: ”(گھر بیو) گدھے کھائے گئے۔“

نبی ﷺ پھر خاموش رہے۔ تیری مرتبہ وہی شخص پھر حاضر ہوا اور عرض کیا: ”(گھر بیو) گدھوں کو ختم کر دیا گیا۔“

آنحضرت ﷺ نے ایک منادی کرنے والے کو حکم دیا تو اس نے لوگوں میں یہ اعلان کیا: ”بے شک اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول ﷺ گھر بیو گدھوں (کے

کھانے) سے روکتے ہیں۔“  
اسی وقت ہانڈیوں کو ابلتنے اور جوش مارتے ہوئے گوشت سمیت زمین پر  
اٹھ دیا گیا۔“<sup>۱۰</sup>

یہ اعلان سن کر نبی کریم ﷺ کے ان پاک باز پگی محبت کرنے والے  
ساتھیوں کو حیلہ سازی یا گنجائش اور رخصت ڈھونڈنے کی نہ سو جھی اور وہ اس  
بارے میں کیسے اور کیوں کر سوچ سکتے تھے جب کہ وہ اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ  
راہ محبت کی مبادیات میں سے ہے کہ چاہنے والے کی خواہشات اپنے محبوب کے  
حکم کے تابع ہوتی ہیں۔

### (۲) شراب کے اعلان حرمت پر اس کامدینہ کی گلیوں میں بنا دینا:

حضرات صحابہ کا مقدس گروہ آنحضرت ﷺ کے اہل شہادت کی تقلیل میں نہ  
صرف عام مرغوب اور پسندیدہ چیزوں سے کنارہ کش ہو جاتا تھا بلکہ ان چیزوں کو  
بھی یکسر ترک کر دیتا تھا جن کی محبت انہوں نے اپنے آباء و اجداء سے درستے میں  
پائی تھی۔ وہ آج کے نام نہاد مسلمانوں کی طرح نہ تھے جو حیلہ سازی کے ماہر اور  
تقلیل و تعال کے غازی ہیں۔ اپنی پسندیدہ اور مرغوب چیزوں کو ترک کرنے کے حکم  
کے بارے میں جن کا پہلے سے تیار شدہ جواب یہ ہے: ”فَهُكُمْ أَنْ چِيزُونَ كَمْ كَيْمَانَ  
كَعَادِيْ ہو چکے ہیں۔ اور ان کے بغیر ہمارا جینا ممکن نہیں۔“  
ہماری اس بات پر دلالت کرنے والے دلائل و شواہد میں سے ایک واقعہ وہ  
ہے جو امام بخاری نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے خواب لئے ہے تراویث کیا ہے۔  
انہوں نے بیان فرمایا کہ: ”میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر ایک گروہ کو فضیح  
نامی شراب پلا رہا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے ایک منادی کر کر نے والے کو حکم دیا کہ وہ  
اعلان کرے: ”سفو ابے شک شراب کو حرام قرار دیے دیا گیا ہے۔“  
حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا: ”ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا

: ”یہ شراب باہر انڈیل دو۔“

میں انٹھا اور شراب کو باہر انڈیل دیا۔ (لوگوں کے کثرت سے شراب گلیوں میں انڈیلے کی وجہ سے) وہ گلیوں میں بننے لگی۔<sup>۱</sup>

شراب کی حرمت کا اعلان سن کر پچھی محبت کرنے والے پاک بازانوں کا رو عمل اسے گلیوں میں پھینکنے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ اور اسی بنا پر شراب گلیوں میں اس طرح بننے لگی جس طرح سیلاپ کا پانی گلیوں میں بہتا ہے۔ اسی بارے میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں : ”اس روایت میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس کے ہاں بھی شراب تھی اس نے گلی میں انڈیل دی یہاں تک کہ وہ کثرت سے گلیوں میں پھینکنے جانے کی وجہ سے سیلاپ کے پانی کی طرح بننے لگی۔“<sup>۲</sup>

یہ سارا عمل کسی بھی چوں چڑا اور قیل و قال کے بغیر مکمل ہوا۔ امام بخاری حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا : ”میں ابو طلحہ اور فلاں فلاں شخص کو شراب پلارہا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا : ”کیا تمہیں خبر مل چکی ہے؟“

انہوں نے دریافت کیا : ”کون سی خبر؟“  
کہنے لگا : ”شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔“  
انہوں نے کہا : ”اے انس! ان منکروں کو والٹ دو۔“

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا : ”حرمت خمر کے بارے میں آدمی کے اطلاع دینے کے بعد کسی نے نہ تو دوبارہ اس بارے میں کوئی سوال کیا اور نہ کوئی تکرار کی۔“<sup>۳</sup>

اللہ اکبر! ان پاک بازاں اور پچھی محبت کرنے والوں کی اتباع و اطاعت کے کیا  
کہنے! انہی سچے اور مقدس لوگوں پر متعلق رب العالمین کا ارشاد ہے :

<sup>۱</sup> صحیح البخاری ۱۱۲/۵

<sup>۲</sup> فتح الباری ۳۹/۱۰

<sup>۳</sup> صحیح البخاری ۴۷۷/۸

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

ترجمہ : ”مومنوں کی شان تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف فیصلے کے لیے بلائے جائیں تو ان کا جواب اس کے سوا پچھنہ ہو ”ہم نے حکم سننا اور حکم مانا“ یقیناً ایسے ہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوئے۔“

(۵) حکم نبوی ﷺ کی تعمیل میں صحابہ کا دشمنوں سے ایفائے عمد:

حضرات صحابہ صرف عام حالت ہی میں آنحضرت ﷺ کے ارشادات کی تعمیل نہ کرتے بلکہ ہر قسم کے حالات میں، اور زندگی کے سب شعبوں میں نبی کریم ﷺ کی اتباع کرتے۔ خوشی اور سرت کا موقع ہو یاد کھو غم اور مصیبت کا، ایام امن ہو یا حالت جنگ، اپنوں سے معاملہ ہو یا غیروں سے، غرضیکہ ہر حالت اور زندگی کے ہر شعبے میں آنحضرت ﷺ کی اطاعت کرتے۔ امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے حضرات صحابہ کے آنحضرت ﷺ کے ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے دشمن سے ایفائے عمد کا ایک واقعہ حضرت سلیم بن عامر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت کیا ہے، جنہوں نے بیان کیا کہ ”معاویہ رضی اللہ عنہ اور رومیوں کے درمیان ایک معاہدہ تھا۔ (مدت معاہدہ کے ختم ہونے سے پیشتر) معاویہ رضی اللہ عنہ نے رومی سر زمین کی طرف روانہ ہونا شروع کیا تاکہ مدت معاہدہ ختم ہوتے ہی ان پر یلغار کر دیں۔“

اسی وقت ایک شخص گھوڑے یا کسی اور سواری پر یہ الفاظ کہتے ہوئے نمودار ہوا: ”اللہ اکبر! اللہ اکبر! اوفا کرو، بے وفا کی نہ کرو۔“

لوگوں نے دیکھا تو وہ عمر و بن عبیہ رضی اللہ عنہ تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے بلا کران سے بات کا سبب دریافت کیا۔

انہوں نے جواب میں کہا: ”میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا

ہے کہ : ”جس کا کسی قوم سے معاہدہ ہو تو وہ مدت پوری ہونے تک اس میں کمی و بیشی نہ کرے یا انہیں معاہدے کے ختم کرنے کے بارے میں پیشگی اطلاع دے۔“  
”رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد سن کر) معاویہ رضی اللہ عنہ واپس پلٹ گئے۔“<sup>۱</sup>

### (۲) صحابہ کا تعمیل ارشاد نبوی ﷺ میں ریشمی مصنوعات سے اجتناب :

امام طبری روایت کرتے ہیں کہ جب اسلامی لشکر الیرموک پہنچا تو انہوں نے رومیوں کو پیغام بھیجا کہ ہم تمہارے سردار سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے ہاں آنے اور اس سے گفتگو کا موقع دو۔  
رومی سردار کو مسلمانوں کا پیغام ملا تو اس نے اسلامی وفد کو آنے کی اور ملاقات کی اجازت دے دی۔

حضرات صحابہ ابو عبیدۃ، یزید بن ابی سفیان، الحارث بن ہشام، ضرار بن الازور اور ابو جندل بن سہیل رضی اللہ عنہم رومی سردار کے پاس پہنچے جو کہ شاہ روم کا بھائی تھا۔  
رومی سردار تھیں خیموں اور تھیں قناتوں میں فروکش تھا جو کہ سب ریشم کے بنے ہوئے تھے۔

اسلامی وفد جب ان خیموں اور قناتوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے یہ کہہ کر ان میں داخل ہونے سے انکار کر دیا : ”ہم ریشمی مصنوعات کے استعمال کو جائز نہیں سمجھتے۔ ہمارے ساتھ گفت و شنید کے لیے باہر آو۔“

رومی سردار باہر بچھے ہوئے قالینوں پر آگیا۔

یہ خبر ہرقیل (شاہ روم) کو پہنچی تو کہنے لگا : ”کیا میں نے تمہیں پہلے سے بتانہ دیا تھا۔ یہ ذلت کی ابتداء ہے۔ جو شام تھا وہ شام نہ رہے گا (یعنی سرز میں شام اب

۱۔ صحیح سنن ابی داؤد ۲/۵۶۸، صحیح سنن الترمذی ۱۱۴-۱۱۳/۲

اور الفاظ سنن ابی داؤد کے ہیں۔

۲۔ اس رومی سردار کا نام مزارق تھا (مالاحظہ ہو : البداية والنهاية ۹/۷)

رومی کا لونی نہ رہے گی)

منخوس نو مولود کے سبب رومیوں کے لیے تباہی اور بربادی۔ ”<sup>لہ</sup>

ایک دوسری روایت میں ہے : اسلامی وفد نے کہا : ”هم ان خیموں اور  
قاتوں میں داخلے کو جائز نہیں سمجھتے۔“

اس پر رومی سردار نے ریشمی قالین بچھانے کا حکم دیا۔ اسلامی وفد نے کہا :  
”هم ان قالینوں پر بھی نہیں بیٹھیں گے۔“

رومی سردار وفد اسلامی کے ساتھ اسی جگہ ملاقات کے لیے بیٹھا جمال  
انہوں نے پسند کیا۔

ان مقدس اور پاک باز حضرات صحابہ کو دشمنوں سے حالت جنگ میں ہونا  
اپنے محبوب حضرت محمد ﷺ کی اطاعت سے غافل نہ کر سکا۔ آپ کی اتباع میں  
انہیں اس بات کی قطعاً پرواہ نہ تھی کہ اس میں ظاہری طور پر ان کے لیے خسارہ ہے  
یا نفع سابقہ بیان کردہ واقعہ میں اسلامی فوج کا رومی سرحد سے دور ہٹنا بظاہر ان کے  
لیے مفید نہ تھا لیکن محبوب رب العالمین ﷺ کی پیروی کے لیے وہ اس قسم کے  
حساب کتاب کے قائل نہ تھے۔ آج کل کے کمزور یقین اور ناقص عقل والے نام  
نہاد مسلمانوں کی طرح ان کے ہاں اتباع حبیب کریم ﷺ کے بارے میں یہ تفریق  
نہ تھی کہ یہ سنت معمولی اور حقیر ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے اور دوسری  
سنت اہم اور ضروری ہے، لہذا اس کو کر لیا جائے۔ راہ سنت سے فرار کے لیے وہ  
ان حیلہ سازیوں سے کو سوں دوز تھے۔ وہ صرف اسی بات سے آشنا تھے کہ حبیب  
کریم ﷺ کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرنی  
ہے۔ اس سے سرمو انحراف انہیں گوارانہ تھا۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا جب کہ وہ خود  
آنحضرت ﷺ سے سن چکے تھے :

((وَجْعَلَ الْذِلْلَةَ وَالصَّغَارَ عَلَىٰ مِنْ خَالِفِ أَمْرِي))<sup>لہ</sup>

”میرے حکم کی مخالفت کرنے والوں پر ذلت اور رسوائی مسلط کی گئی ہے۔“

انہوں نے اس فرمان مصطفوی ﷺ کو نہ صرف سن رکھا تھا بلکہ اسے دل کی گرائی میں اپتار رکھا تھا اور نہیں پر ثابت کر رکھا تھا۔ زندگی کے کسی بھی پہلو اور موڑ پر اسے آگاہوں سے او جھل نہ ہونے دیتے۔

کاش! امت اسلامیہ اس حقیقت کا ادراک کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت اور ذلت، اور فتح اور شکست کو کچھ باتوں سے وابستہ کر رکھا ہے۔ ان میں سے ایک اہم بات جناب نبی کریم ﷺ کی تابعداری اور نافرمانی ہے۔ ان کے اطاعت گزاروں کے لیے دنیا ہی میں سرفرازی، سر بلندی، اور زمین میں قوت اور اقتدار کا پانا ہے اور ان کے نافرمانوں کے لیے دنیا ہی میں ذلت اور رسوائی ہے۔

شاید کہ امت مسلمہ اس حقیقت کو سمجھ کر اور اس کا اہتمام کر کے پیسوں سے نجات حاصل کر لے اور اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لے۔

(۷) صحابہ کا آنحضرت ﷺ کو جوتے اتارتے دیکھ کر جوتے اتارنے میں جلدی کرنا:

کسی کو چاہئے والا اس کے لبوں سے امر و نہی (کرو، نہ کرو) کے الفاظ کا انتظار نہیں کرتا۔ وہ تو اس کی حرکات و سکنات کو شوق اور محبت سے ملاحظہ کرتا رہتا ہے، وہ اس کے چہرے کے تغیرات کو پڑھنے میں مگن رہتا ہے، اس کی آنکھوں کے اشاروں کو سمجھنا اس کا محبوب ترین مشغله ہوتا ہے۔ اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتا ہے تاکہ اپنے محبوب کی پسند اور ناپسند سے آگاہ ہو کر اس کے مرغوب کام کو سرانجام دے سکے اور اس کی ناپسندیدہ باتوں سے دور ہو سکے۔

حبیب کریم حضرت محمد ﷺ کے سچے چاہئے والوں کی کیفیت اس سے مختلف نہ تھی۔ انہوں نے آنحضرت ﷺ سے ایسی محبت کی کہ دشمن پکارا اٹھا۔

لہ رواہ الامام أحمد رحمہ اللہ عنہما (ملاحظہ ہو: المستند ۷/۱۲۳)

((ما رأيْت فِي النَّاسِ أَحَدًا يُحِبُّ إِحْدَا كَحْبَ أَصْحَابِ  
مُحَمَّدٍ مُّحَمَّداً عَلَيْهِ السَّلَامُ))<sup>۱</sup>

”جتنی محبت محمد ﷺ کے ساتھیوں کو ان سے ہے اس قدر محبت کا اظہار  
میں نے لوگوں میں سے کسی کو کسی سے کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔“  
وہ آپ ﷺ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے اوامر و نواہی کی تعمیل پر اکتفانہ  
کرتے بلکہ آپ کی حرکات و سکنات کو محبت، عقیدت، احترام اور شوق سے ملاحظہ  
کرتے۔ آپ ﷺ کو کوئی عمل کرتے دیکھتے تو وہ عمل کرنے کے لیے لپک پڑتے۔  
آپ ﷺ کو کسی کام سے کنارہ کش ہوتے ہوئے دیکھتے تو یہ دم اس سے دور ہو  
جاتے۔ ان کی مقدس سیرتوں میں اس کے کتنے دلائل و شواہد ہیں۔ انہیں میں سے  
ایک واقعہ وہ ہے جو امام ابو داؤد نے حضرت ابو سعید الخدرا رضی اللہ عنہ کے  
حوالے سے بیان کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا: ”ایک دن رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کو  
نماز پڑھانے کے دوران اپنے جوتے اتار کر اپنی بائیں جانب رکھ دیئے۔ جب  
لوگوں نے یہ بات دیکھی تو انہوں بھی جوتے اتار دیئے۔ نماز سے فارغ ہو کر  
آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”تمہیں جو توں کے اتار نے پر کسی چیز نے آمادہ کیا؟“  
انہوں نے عرض کیا: ”ہم نے آپ کو جوتے اتار تے دیکھا تو ہم نے بھی  
جوتے اتار دیے۔“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میرے پاس تو جبریل آئے اور بتلایا کہ ان  
جو توں میں گندگی ہے۔“

پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے جب کوئی مسجد میں آئے تو اپنے  
جوتے دیکھے اگر ان میں گندگی ہو تو اسے پونچھ کر ان میں نماز ادا کر لے۔“<sup>۲</sup>  
اللہ اکبر! وہ پاک بازاور مقدس حضرات آنحضرت ﷺ کی اتباع میں کس قدر  
جلدی کرنے والے تھے۔ رضی اللہ عنہم و ارضاہم۔

۱ ملاحظہ ہو: سیرۃ ابن ہشام ۹۵/۳

۲ صحیح سنن أبي داود ۱۲۸/۱

## (۸) ایک عورت کا آنحضرت ﷺ سے وعید سن کر سونے کے دونوں

کنگن اتار دینا :

آنحضرت ﷺ کی اتباع کرنے والے صرف مرد ہی نہ تھے بلکہ آپ سے محبت کرنے والی ایمان دار عورتیں بھی اسی طرح آپ کی اطاعت کرتی تھیں۔ اس بارے میں کتب حدیث و سیرت میں کثرت سے دلائل موجود ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ وہ ہے جو امام ابو داؤد نے حضرت عبد اللہ بن عمر و رضی اللہ عنہما کے حوالے سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک عورت اپنی بیٹی کے ہمراہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ بیٹی کی کلائیوں میں سونے کے دو موٹے موٹے کنگن تھے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟“ عورت نے عرض کیا: ”نہیں۔“

آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ سونے کے ان دو کنگنوں کی وجہ سے تمہیں جہنم کی آگ کے دو کنگن پہنائے جائیں؟“ راوی کا بیان ہے: ”عورت نے وہ دونوں کنگن اتار کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش کر دیے اور عرض کیا: ”یہ دونوں (کنگن) اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے لیے ہیں۔“

اللہ اکبر! عورت نے آنحضرت ﷺ کے ارشاد کی تعمیل میں ان کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کرنے پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ ان کی ملکیت ہی سے دستبردار ہوتے ہوئے انہیں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ آپ ﷺ جہاں چاہیں اللہ کی راہ میں انہیں خرچ کر دیں۔

## (۹) گلی میں چلتی ہوئی عورتوں کے کپڑوں کا آنحضرت ﷺ کے حکم کی

تعمیل میں دیواروں سے چمٹنا :

کوئی یہ نہ سمجھے کہ عورتوں کی طرف سے آنحضرت ﷺ کی فوری اطاعت

کوئی انوکھا یا نادر معاملہ تھا۔ ان مقدس اور پاک باز عورتوں کی سیرتوں کا مطالعہ کرنے والے اس بات سے آگاہ ہیں کہ اتباع رسول ﷺ کے معاملے میں ان سب کی کیفیت ایسی ہی تھی۔

امام ابو داؤد حضرت ابو اسید النصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مسجد کے باہر راستے میں مردوں اور عورتوں کو اکٹھے چلتے ہوئے دیکھا تو (عورتوں سے) فرمایا: ”پچھے ہٹ جاؤ۔ تمہیں راستے کے درمیان میں چلنے کا حق نہیں۔ تم گلی کے کناروں میں چلو۔“

اس کے بعد ہر عورت دیوار کے ساتھ اس طرح چھٹ کر چلتی کہ چلتے ہوئے اس کے پڑے دیوار کے ساتھ انکھتے تھے۔

اللہ اکبر! مسلمان عورتوں نے کتنی جلدی اور کتنی شدت سے رسول اللہ ﷺ کے حکم کی تعمیل کی۔ آنحضرت ﷺ کی محبت کی چو تھی علامت کے بارے میں گفتگو شروع کرنے سے قبل ہم سب مردوں اور عورتوں کو اس بات کا جائزہ لینا چاہئے کہ کیا ہم اتباع رسول ﷺ میں اپنے اسلاف کی راہ پر ہیں یا اس سے کو سوں دور؟

کیا ہم میں سے بہت سے مرد حضرات ایسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے دن کی ابتدا رسول اللہ ﷺ کی سنت کو ذبح کرنے سے کرتے ہیں؟

کیا اپنے تین مسلمان سمجھنے والی عورتوں کی ایک بہت بڑی تعداد شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں شرکت کرتے وقت نبی کریم ﷺ کی تعلیمات کو یکسر فراموش نہیں کر دیتی؟

کیا ہم میں سے بہت سے مرد اور خواتین بیرون ملک جانے کے بعد ایسی سیرت و صورت اختیار نہیں کر لیتے کہ دیکھنے والے کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ یہ مسلمان ہیں یا یہود و نصاری؟

## نبی کریم ﷺ سے محبت کی چوتھی علامت

سنت مصطفیٰ ﷺ کی نصرت و تاسید کرنا  
 اور شریعت اسلامیہ کا دفاع کرنا

تمہید:

سب جانتے ہیں کہ کسی کے محبوب نے جس مشن کی تیکیل کی غرض سے اپنی جان و مال کو فدا کیا ہوا س کے چاہئے والے اس مشن کی خاطر اپنی جانوں اور مالوں کا نذر انہ پیش کرنے کے لیے ہمہ وقت مستعد اور تیار رہتے ہیں۔ اس مشن کے لیے کسی قسم کی قربانی دینا ان کے لیے باعث سعادت اور سرمایہ افتخار ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا مشن یہ تھا کہ لوگوں کو کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر نور توحید کی طرف لا یا جائے۔ غیر اللہ کی بندگی سے ہٹا کر بندوں کے تھارب کی بندگی پر لا گایا جائے۔ اس مشن کی تیکیل کی خاطر آنحضرت ﷺ نے اپنی تمام توانائیاں، قوتیں اور صلاحیتیں صرف کر دیں۔ اسی مقصد کے لیے اپنے سارے اوقات، وطن، مال اور جان کو لا گا دیا۔ کلمۃ اللہ کی سر بلندی اور کفر کو ختم کرنے کے لیے جہاد کرتے رہے۔ دین حق کی بالادستی اور ادیان باطلہ کو مثانے کی خاطر ساری زندگی حق کے دشمنوں سے لڑتے رہے۔

آپ کے پاک باز سچے چاہئے والے حضرات صحابہ اس بارے میں بھی آپ ﷺ کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرتے۔ آپ کے مشن کی تیکیل کی غرض سے اپنی ساری صلاحیتیں، توانائیاں اور قوتیں صرف کرتے۔ دین اسلام کی سر بلندی اور نشوونا شاعت میں جان و مال کی قربانی سے قطعاً دریغ نہ کرتے اور اب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان پاک بازوں کے نقش قدم پر چلنے والے سچے محاب رسول ﷺ موجود ہیں، اگرچہ ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔

اس چوتھی علامت کے متعلق آنحضرت ﷺ کے پاک باز ساتھیوں کے چند ایک واقعات اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ذیل میں بیان کیے جا رہے ہیں۔

(۱) انس بن نضر رضی اللہ عنہ کا راہ اللہ تعالیٰ میں اپنی جان کو قربان کرنا اور

دوسروں کو اس کی دعوت دینا:

جیسا کہ گز شش صفحات میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ معرکہ احمد میں اسلامی صفوں میں اضطراب پیدا ہو گیا اور لوگوں میں مشور ہو گیا کہ رسول اللہ ﷺ قتل کر دیئے گئے ہیں۔ اس خبر سے متاثر ہو کر بعض صحابہ کافروں سے لڑائی چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچے اور ان سے کہنے لگے: ”تمہیں لڑائی سے کس بات نے بھادیا ہے؟“

انہوں نے کہا: ”رسول اللہ ﷺ قتل کر دیئے گئے ہیں۔“

کہنے لگے: ”ان کے بعد تمہاری زندگی کس کام کی ہے؟ انہوں اور اسی مشکل کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کرو جس کی خاطر انہوں نے اپنی جان قربان کر دی۔ اور اس کے بعد انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے دین حق کے دفاع اور کلمۃ اللہ کی سر بلندی کی خاطر اپنی جان کس طرح قربان کی؟“

امام بخاری نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت کیا کہ انہوں نے بیان کیا کہ غزوہ احمد کے دن جب عام لوگ پیچھے ہٹ گئے تو (انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے) کہا: ”اے میرے اللہ! میرے ساتھیوں نے جو کیا ہے، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں اور جو کچھ مشرکوں نے کیا ہے، اس سے اظہار براعت کرتا ہوں۔“ پھر آگے بڑھے تو ان کی ملاقات سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ ان سے کہنے لگے: ”اے سعد بن معاذ! جنت! رب نظر کی قسم! مجھے احمد کے اس طرف سے اس کی خوبیوں آرہی ہے:“

لئے ملاحظہ ہو: سیرۃ ابن ہشام ۲/۳۰، نیز ملاحظہ ہو: السیرۃ النبویة لا بن حبان البستی

ص ۲۲۵، جوامع السیرۃ ص ۱۶۲

سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے (رسول اللہ ﷺ سے) عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! جوانوں نے کیا میں وہ نہ کر سکا۔“

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے (حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کے متعلق) بیان کیا: ”ہم نے دیکھا کہ ان کے جسم پر تلوار، تیر اور نیزے کے ۸۰ سے زیادہ زخم تھے۔ اور وہ قتل ہو چکے تھے۔ مشرکوں نے ان کے ناک، کان اور دیگر اعضاء کاٹ دیئے تھے۔

ان کی ہمشیرہ کے سوا کوئی ان کی شناخت نہ کر سکا۔ ان کی ہمشیرہ نے بھی (انگلیوں کی) پوروں سے ان کی پہچان کی۔“

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا: ہم یہ سمجھتے یا گمان کرتے تھے کہ انس (ابن نضر) رضی اللہ عنہ اور ان جیسے لوگوں کے بارے میں یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تھی:

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا أَللَّهُ عَلَيْهِ بِهِ﴾ الی آخر الآية ۲۵

”ایمان والوں میں سے کتنے مرد ہیں کہ جس بات کا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عمد کیا تھا اس کو چ کر دکھلایا“

رضی اللہ عنہ و ارضاء

(۲) آنحضرت ﷺ کا پیغام پہنچاتے ہوئے جان فدا ہونے پر حرام رضی اللہ عنہ کی خوشی:

ایک اور سچے محبت رسول ﷺ کا فروں کو آنحضرت ﷺ کا پیغام پہنچاتے ہوئے نیزے کا نشانہ بنائے گئے جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں زخمی ہونے کے بعد اتنی مهلت عطا فرمائی کہ اس دارِ فانی سے کوچ کرنے سے پہلے جام شہادت نوش کرنے کی سعادت کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار

کر سکیں۔

ان کے ان جذبات کا ذکر اس روایت میں موجود ہے جو امام بخاری نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے ان کے ماموں (ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کے بھائی) کو ستر سواروں کے ہمراہ بھیجا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا کے بھائی حرام رضی اللہ عنہ، ایک لنگڑا شخص اور فلاں قبیلے کا ایک شخص، تینوں (وفد کی صورت میں کافروں کی طرف) روانہ ہوئے۔ حرام رضی اللہ عنہ نے (ان سے) کہا: ”جب میں ان کی طرف جاؤں تو تم دونوں میرے قریب رہنا۔ اگر انہوں نے مجھے امان دیا تو تم میرے قریب ہی ہو گے اور اگر انہوں نے مجھے قتل کر دیا تو تم اپنے ساتھیوں کے پاس چلے جاؤ گے۔“

پھر حرام رضی اللہ عنہ نے (کافروں سے) کہا: ”کیا تم مجھے امان دیتے ہو کہ میں رسول اللہ ﷺ کا پیغام پہنچاؤں؟“

اس کے بعد حرام رضی اللہ عنہ نے ان سے گفتگو شروع کی<sup>۱</sup>۔ انسون (کافروں) نے ایک آدمی کو اشارہ کیا جس نے پیچھے سے ان پر نیزے سے وار کر دیا۔

ہمام (جو اس واقعہ کے راویوں میں سے ایک ہیں) نے کہا: ”میرا خیال ہے نیزہ ان کے جسم میں ایک طرف سے داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا۔“ انہوں (نیزے کے آرپار ہونے پر حرام رضی اللہ عنہ) نے کہا: ”اللہ اکبر! رب کعبہ کی قسم امیں کامیاب ہو گیا۔“<sup>۲</sup>

<sup>۱</sup> تاریخ طبری میں ہے: حرام رضی اللہ عنہ ان کی طرف گئے اور ان سے کہا: اے مؤمن کے کنوں والو! میں تمہاری طرف رسول اللہ ﷺ کا قاصد ہوں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لاو۔“

<sup>۲</sup> ایک آدمی گھر سے نکلا اور ان کے جسم کے ایک پہلو میں نیزے سے وار کیا جو دوسرے پہلو سے باہر نکل گیا۔ (تاریخ الطبری ۳۸۸/۷)

یہ تھی وہ بھی محبت جس کی وجہ سے حضرت حرام رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ اعتقاد پیدا ہوا کہ محبوب کے پیغام کے پہنچانے میں جان قربان کرنا کامیابی اور کامرانی ہے۔

رب کعبہ کی قسم! حقیقی کامیابی تو یہی ہے۔ اے اللہ! ہمیں اس کامیابی سے محروم نہ رکھنا، آمین یا رب العالمین۔

### (۳) صدقیق رضی اللہ عنہ کا رحلت رسول کریم ﷺ اور حالات کی سنگینی کے باوجود جیش اسامہ رضی اللہ عنہ کو روانہ کرنا:

رسول کریم ﷺ کے انتقال کے بعد حضرات صحابہ کو انتہائی سنگین اور کئی حصے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ قبائل عرب مرتد ہو گئے اور انہوں نے مرکز اسلام مدینہ طیبہ پر حملہ کا ارادہ کیا۔ بقول حضرت عمر بن یاسر رضی اللہ عنہما اس وقت حضرات صحابہ الیٰ بکریوں کی مانند تھے جن کا چرواحانہ رہا ہوا اور مدینہ طیبہ اپنے باسیوں پر اس قدر تنگ ہو چکا تھا جس طرح انگوٹھی اپنے پہنچنے والے کی انگلی میں تنگ ہو جاتی ہے۔ ایسے نازک اور مشکل حالات میں لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ روانہ کرنے کا معاملہ سامنے آیا۔ اس لشکر کو رسول اللہ ﷺ نے مدینہ طیبہ سے دور رومیوں کے علاقے میں ان سے جہاد کرنے کے لیے تیار کیا تھا لیکن آنحضرت ﷺ کی شدید بیماری اور پھر انتقال کی وجہ سے یہ لشکر کو چونہ کر سکا تھا۔

ان پر خطر اور نازک حالات میں رسول اللہ ﷺ کے حکم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ ﷺ کے سب سے بڑے اور سب سے زیادہ سچے محبت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا موقف کیا تھا؟

اس کا جواب عاصم بن عدی رحمہ اللہ تعالیٰ کی روایت میں موجود ہے جس کو امام طبری نے اپنی کتاب ”تاریخ الطبری“ میں نقل کیا ہے۔ عاصم رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ:

”رسول اللہ ﷺ کی وفات کے دوسرے دن کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے منادی کرنے والے نے اعلان کیا کہ : ”اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو پورا کیا جائے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کے سارے فوجی شرے سے نکل کر اپنی لشکر گاہ جرف میں پہنچ جائیں۔“

اور جب خطرناک صورت حال کے پیش نظر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اپنے لشکر سمیت مدینہ طیبہ رہنے کی اجازت طلب کی تو انہوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو لکھا :

((ما كنْت لاستفتح بشيء أولى من إنفاذ أمر رسول الله ﷺ  
ولأن تخطفني الطير أحب إلى من ذلك)).<sup>۱</sup>

”میں رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کی تعمیل کے علاوہ کسی بھی اور کام سے (اپنے امور خلافت کا) آغاز کرنا مناسب نہیں سمجھتا، کسی اور کام سے ابتداء کرنے سے مجھے زیادہ پسند ہے کہ مجھے پرندے اچک لیں۔“

جب لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کو روکنے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ خدشہ ظاہر کیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کی خبر سن کر قبائل عرب مدینہ طیبہ پر حملہ کر دیں گے تو انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا :

((أنا أحبس جيشاً بعثهم رسول الله ﷺ. لقد اجترأت على أمر عظيم. والذي نفسي بيده لأن تميل العرب أحب إلى من أن أحبس جيشاً بعثهم رسول الله ﷺ)).<sup>۲</sup>

”جس لشکر کو رسول اللہ ﷺ نے روانہ فرمایا میں اس کو روک دوں! تو نے (یہ تجویز پیش کر کے) بڑی جسارت کی ہے۔ میرے نزدیک قبائل عرب کا حملہ آور ہونا رسول اللہ ﷺ کے بھیجے ہوئے لشکر کے روکنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔“

<sup>۱</sup> تاریخ خلیفۃ بن حیات ص ۱۰۰

<sup>۲</sup> تاریخ الإسلام للذهبي (عصر الخلفاء الراشدين رضی اللہ عنہم) ص ۲۰-۲۱

تاریخ الطبری میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

((وَالذِّي نَفْسُ أُبْنِي بَكَرَ بِيَدِهَا لَوْ ظَنَنتُ أَنَّ السَّبَاعَ تَخْطُفَنِي  
لَا نَفَذَتْ بَعْثَ أَسَامَةَ كَمَا أَمْرَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ لَوْ لَمْ يَقِنْ  
فِي الْقَرَى غَيْرِي لَا نَفَذَتْهُ)). ۱

”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے! اگر میں سمجھوں  
کہ لشکر اسامہ کے روانہ کرنے کی صورت میں درندے مجھے اچک کر لے  
جائیں گے تو بھی میں لشکر اسامہ کو اسی طرح روانہ کروں گا جس طرح  
کہ رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا۔ اور اگر بستیوں میں میرے سوا کوئی بھی باقی  
نہ رہے تو بھی اس کو روانہ کروں گا۔“

اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبد نہیں! حبیب کریم حضرت محمد ﷺ سے  
سب سے زیادہ محبت کرنے والے یہی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔

پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ الوداع کرنے کے لیے خود ان  
کے ہمراہ نکلتے ہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سوار ہیں اور حضرت صدیق رضی  
الله عنہ ان کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی  
الله عنہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی سواری کی لگام تھامے جا رہے ہیں۔

حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں:

((يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ! وَاللَّهُ! لَتَرْكِنَّ أَوْ لَا نَزَلَنَ)).

”اے رسول اللہ ﷺ کے خلیفہ! اللہ تعالیٰ کی قسم! آپ بھی سوار ہو جائیے  
و گرنہ میں سواری سے نیچے اتراؤں گا“

حضرت صدیق رضی اللہ عنہ جواب میں فرماتے ہیں:

((وَاللَّهُ! لَا تَنْزَلُ، وَاللَّهُ! لَا أَرْكَبُ. وَمَا عَلِيَّ أَنْ أَغْبَرَ قَدْمِيَّ فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ سَاعَةً)). ۲

”اللہ تعالیٰ کی قسم! تم سواری سے نہ اترو گے اور اللہ تعالیٰ کی قسم اسے ہی میں سوار ہوں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں میرے قدم کچھ دیر کے لیے غبار آکو دہو جائیں تو اس سے میرا کیا بگڑتا ہے؟“

اور پھر انہوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو بابیں الفاظ و صیت فرمائی:

((اصنع ما أمرك به نبی اللہ ﷺ. ابدأ ببلاد قضاعة ثم إیت آبل، ولا تقصّرْ فی شيء من أمر رسول اللہ ﷺ)). ۱

”اللہ تعالیٰ کے نبی ﷺ نے تمہیں جس بات کا حکم دیا اس کو پورا کرو۔ جہاد کا آغاز قضاعہ کی آبادی سے کرو، پھر آبل کی طرف آؤ۔ رسول اللہ ﷺ کے حکم کی تعمیل میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرنا۔“

اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

((امض يا اسامه! في جيشك للوجه الذي أمرت به، ثم اغز حيث أمرك رسول اللہ ﷺ)). ۲

”اسامہ! اپنے لشکر کے ساتھ اسی جانب جاؤ جس طرف جانے کا تمہیں حکم دیا گیا تھا۔ پھر اسی مقام پر حملہ کرو جہاں رسول اللہ ﷺ نے تمہیں حملہ کرنے کا حکم دیا۔“

اور رب محمد ﷺ کی قسم! حبیب حضرت محمد ﷺ کی حقیقی اور پچی محبت تو یہی ہے کہ ان کے ارشادات کے مطابق دین کے دفاع اور اعلاء کلمۃ اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے لکھا جائے۔

(۲) سُنگین حالات کے باوجود صدقہ رضی اللہ عنہ کا مانعین زکوٰۃ اور مرتدین

کے خلاف جہاد:

جب مانعین زکوٰۃ کا معاملہ درپیش آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حالات کی سُنگینی

۱۔ تاریخ الطبری ۳/۲۲۷

۲۔ تاریخ الإسلام للذهبي ص ۲۰-۲۱

اور ناسازگاری کے باوجود نبی کریم ﷺ سے بچی محبت کرنے والے ان کے خلاف جہاد کے بارے میں اپنے پختہ ارادے اور ٹھوس عزم کا اظہار بایں الفاظ فرماتے ہیں:

((وَاللَّهُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَؤْدُونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ لَقَاتَلُهُمْ عَلَىٰ مَنْعِهِ)).<sup>۱</sup>

”اللہ کی قسم! اگر انہوں نے مال زکوٰۃ کی ایک رسی بھی روکی جسے وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے تو میں اس ایک رسی کے حصول کی خاطر بھی ان کے خلاف جہاد کروں گا۔“

اور پھر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بعض مرتد قبائل کے مدینہ طیبہ پر حملے کے ارادے کی خبر ہوئی تو خود تکوار سونتے ہوئے ان کے مقابلے کے لیے نکلے۔ اس سلسلے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ”میرے باپ ہاتھ میں برہنہ تکوار لیے ہوئے اپنی سواری پر ذی القصہ کی طرف روانہ ہوئے۔“<sup>۲</sup>

اور جب ان کے سامنے یہ تجویز پیش کی گئی کہ وہ کسی کو اپنا نائب نامزد کر کے مرتدین کے خلاف جہاد کے لیے روانہ کر دیں اور خود مدینہ طیبہ ہی میں تشریف رکھیں تو انہوں نے بایں الفاظ اس تجویز کو مسترد کرتے ہوئے جواب دیا:

((لَا، وَاللَّهُ أَكْفَلُ، وَلَا وَاسِنَكُمْ بِنَفْسِي))<sup>۳</sup>

”نمیں، اللہ کی قسم! میں ایسے نہ کروں گا۔ میں اپنی جان کے ساتھ تمہارا

۱۔ صحیح مسلم ۵۲/۱

۲۔ (ذی القصہ): یہ جگہ مدینہ سے ربذہ کی جانب چوبیں میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ (ملاحظہ ہو:

معجم البلدان، رقم ۹۷۲، ۴/۶۱)

۳۔ البداية والنهاية ۳۵۵/۶

۴۔ تاریخ الطبری ۲/۲۴۷، نیز ملاحظہ ہو: الكامل فی التاریخ ۲/۲۳۳ اور البداية والنهاية ۳۵۵/۶

تعاون کروں گا۔“

سچا محبت اس بات کو کیپے گوارا کر سکتا ہے کہ جس دین حق کو اس کے محبوب حضرت محمد ﷺ لے کر آئے، وہ دین تو اس کو آوازیں دے رہا ہو اور وہ چین سے پیٹھا رہے؟ شریعت اسلامیہ کی مدد کی پکار کانوں میں پڑنے کے بعد وہ کس طرح دشمنوں کے مقابلے میں نکلنے سے گریز کر سکتا ہے؟

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس اقدام کے مقابلے میں ہماری کیفیت کیا ہے؟ کیا ہم دین حق کی مشرق و مغرب سے آنے والی چیخ و پکار کو نہیں سن رہے؟ کیا شریعت اسلامیہ کی دنیا کے گوشے گوشے سے اٹھنے والی صدائیں ابھی تک ہمارے بے حد کانوں سے گزر کر ہمارے نیم مردہ دلوں تک نہیں پہنچیں؟ اس پکار پر بلیک کہنے والے کتنے لوگ ہیں؟

نبی کریم ﷺ کی محبت کے دعوے کے باوجود کیا ہم میں سے بعض کے بارے میں اس بات کا خدشہ نہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان چپاں ہو:

﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَقْعِدُونَ إِلَيْهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبَصِّرُونَ إِلَيْهَا وَلَهُمْ أَذْانٌ لَا يَسْمَعُونَ إِلَيْهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْفَعَةِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمْ الْفَلَثُونَ﴾ ۱۷

”ان کے دل ایسے ہیں جن سے وہ (دین و آخرت کی باتیں) نہیں سمجھتے۔ ان کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے (ہدایت کارستہ) نہیں دیکھتے۔ ان کے کان ایسے ہیں جن سے (حق کی بات) نہیں سنتے۔ یہ لوگ چارپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔“

(۵) براعو رضی اللہ عنہ کا دشمن کے باغ کا اندر سے دروازہ کھولنے کی خاطر اس

میں پہنچنے کا مطالبہ:

معمر کہ یمامہ میں مسلمہ کذاب کے ساتھیوں نے باغ میں داخل ہو کر اندر

سے دروازہ بند کر لیا۔ اس صورتِ حال میں ایک سچا محبت اپنے مسلمان بھائیوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس کو باغ کی دیوار کے اوپر سے باغ کے اندر پھینک دیا جائے تاکہ وہ اندر سے دروازہ کھول سکے۔ ان کا قصہ بیان کرتے ہوئے امام طبری فرماتے ہیں :

”پھر مسلمان پیش قدمی کرتے گئے یہاں تک کہ انہوں نے ان کو (میلہ کذاب کے ساتھیوں کو) باغ تک دھکیل دیا۔ (وہی باغ جو بعد میں موت کے باغ (حدیقة الموت) کے نام سے مشہور ہوا)۔ اللہ تعالیٰ کا دشمن میلہ کذاب بھی اسی باغ میں تھا۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ نے آواز دی : ”اے مسلمانو! مجھے ان پر باغ میں ڈال دو۔“

ایک دوسری روایت میں ہے : انہوں نے کہا : ”اے مسلمانو! مجھے باغ میں ان پر پھینک دو۔“

لوگوں نے کہا : ”اے براء! ایسے نہ کرو۔“

انہوں نے جواب میں کہا : ”اللہ کی قسم! تم مجھے ضرور باغ میں ان پر پھینکنے گے۔“

انہیں اٹھایا گیا یہاں تک کہ وہ دیوار پھلانگ کر باغ کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر میلہ کذاب کے ساتھیوں کے ساتھ لڑتے لڑتے باغ کے دروازے تک پہنچے اور اس کو مسلمانوں کے لیے کھونے میں کامیاب ہو گئے۔ مسلمانوں نے باغ کے اندر داخل ہو کر ان سے جنگ کی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میلہ کذاب کو ان کے ہاتھوں ہلاک کر دیا۔<sup>۱</sup>

اللہ اکبر! حضرت براء رضی اللہ عنہ نے رب عز و جل کی راہ میں اپنی قیمتی جان کو کس قدر ارزائیا! اور رب کعبہ کی قسم! ان کی جان ہم ایسے ناکاروں کی ہزاروں جانوں سے زیادہ قیمتی تھی۔

## (۶) معرکہ یرموک میں چار سو مسلمانوں کی موت پر بیعت :

معرکہ یرموک میں ہم دیکھتے ہیں کہ چار صد سچے محبت دین حق کے دفاع اور حکمة اللہ کی سر بلندی اور فتنہ فساد کی سرکوبی کی خاطر موت پر بیعت کرتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ ابو عثمان غسانی سے ان کے والد کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ : عکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابی جہل نے (معرکہ یرموک کے موقع پر) کہا :

”میں نے رسول اللہ ﷺ کے خلاف بہت سے مقامات پر (ڈٹ کر) لڑائی کی۔ اور اب تمہارے (کافروں) مقابلے میں راہ فرار اختیار کروں؟“  
چار سو سرکردہ مسلمانوں اور سواروں نے ان کے چچا حارث بن ہشام اور ضرار بن ازور سمیت ان کی بیعت کی۔

پھر انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے خیمے کے سامنے ثابت تدمی اور استقلال سے دشمن کا مقابلہ کیا یہاں تک کہ وہ سب زخمی ہو کر گرپڑے۔ اور ان میں کتنے حضرات نے وہیں اپنی جانوں کو نجحاور کر دیا۔“<sup>۱</sup>

## (۷) اسلامی لشکر کے لیے بڑے قلعے کا دروازہ کھولنے کی غرض سے زیر

### رضی اللہ عنہ کا اوپر چڑھنا :

اسلام کی خاطر فدا کاری اور جانشانی کا جو نمونہ معرکہ یمامہ میں حضرت براء بن مالک رضی اللہ عنہ نے پیش کیا، وہی نقشہ سرز میں مصر میں ایک اور سچے محبت حضرت زبیر اور ان کے ساتھیوں رضی اللہ عنہم نے پیش کیا۔ قربانی اور سرفروشی کی ان مثالوں کی باہمی مشاہدت میں تعجب اور حیرانی کی کوئی بات نہیں کیونکہ وہ سب ایک ہی مدرسے کے تربیت یافتہ اور ایک ہی محبوب کے چاہنے والے تھے۔ وہ مدرسہ

سلسلہ البداية والنهاية ۱۱/۷-۱۲، نیز ملاحظہ ہو: تاریخ الطبری ۳/۴۰۱ اور الکامل فی التاریخ ۲/۲۸۳۔

ہے مدرسہ محمدیہ اور ان سب کے محبوب ہیں سید الکوئین محبوب رب العالمین حضرت محمد ﷺ۔ امام ابن عبدالحکم نے حضرت زبیر اور ان کے رفقارِ رضی اللہ عنہم کی سرفروشی کے اس ولقے کو بیان کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے :

”جب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو فتح (مصر) میں تاخیر ہوئی تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا : ”میں اپنی جان کا نذر انہ اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ اس سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔“

پھر انہوں نے کبوتروں والے بازار کی جانب سے قلعے کے ساتھ سیر ہمی لگائی اور قلعے کے اوپر چڑھ گئے اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب وہ ان کی تکمیر سنیں تو اس کے جواب میں وہ بھی (اللہ اکبر) کہیں۔

یک ایک لوگوں نے دیکھا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ قلعے کی دیوار کے اوپر ہاتھ میں تکوار تھامے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ ان کی یہ کیفیت دیکھ کر لوگوں میں جوش پیدا ہوا اور وہ اتنی بڑی تعداد میں قلعے کی دیوار پر چڑھنے کے لیے سیر ہمی کی طرف لپکے کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو اُنہیں روکنا پڑا کہ کہیں سیر ہمی ان کی کثرت کی وجہ سے ٹوٹنے جائے۔

جب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے قلعے کے اندر داخل ہو کر بیک زبان نعرہ تکمیر بلند کیا اور قلعے کے باہر والوں نے بھی ان کے جواب میں نعرہ تکمیر بلند کیا تو اہل قلعہ کو یقین ہو گیا کہ سارے مسلمان قلعے کے اندر گھس چکے ہیں اور انہوں نے راہ فرار اختیار کرنے ہی میں اپنی عافیت سمجھی۔

حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی قلعے کے دروازے کی طرف بڑھے اور اس کو اندر سے کھول دیا۔ اور مسلمان قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ ”لہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم و آرضا ہم (اللہ تعالیٰ ان سرفروشوں پر راضی ہو جائے اور انہیں خوش کر دے)۔ وہ دین حق کی محبت اور اس کی خاطر اپنی جانیں پچھاوار کرنے میں

لہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اس وقت سر زمین مصر میں جماد کرنے والی اسلامی فوج کے امیر تھے۔

کس قدر سچے تھے!

(۸) نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کی اپنی شہادت کے ساتھ مسلمانوں کی فتح

کی دعا:

معز کہ نہاوند میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور سچا محبت دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شہادت کے ساتھ مسلمانوں کو فتح دے۔ حافظ ذہبی نے ذکر کیا ہے کہ جب معز کہ نہاوند میں دونوں فوجیں آئے سامنے آئیں تو حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نے کہا: ”اگر میں قتل ہو گیا تو کوئی میری طرف پلٹ کرنے دیکھے اور میں ایک دعا کرنے لگا ہوں، تم میری اس دعا پر آمین کہنا۔“

پھر انہوں نے دعا کی:

”اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الشَّهَادَةَ بِنَصْرِ الْمُسْلِمِينَ“

”اے میرے اللہ! میری شہادت کے ساتھ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمَا“

لوگوں نے ان کی دعا پر آمین کی۔

اور حضرت نعمان رضی اللہ عنہ مسلمانوں میں سب سے پہلے قتل کیے گئے جعلہ اللہ تعالیٰ من الشہداء۔

اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا: ”اے میرے اللہ! اپنے دین کو سر بلند فرم۔ اپنے بندوں کی مدد فرم۔ اور اپنے دین کی سرفرازی اور بندوں کی نصرت کے لیے نعمان کو پہلا شہید بن۔“<sup>۱</sup>

کتنی عظیم اور شان والی ہے یہ دعا! ایسی دعا کی سعادت ہر کس و ناکس کو تو نصیب نہیں ہوتی۔ صبر کرنے والے اور بڑے نصیب والے ہی اس سعادت سے بہرہ ور ہوتے

ہیں۔ ﴿ وَمَا يُلْقَنَهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَنَهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ

<sup>۱</sup> لم تاریخ الاسلام ص ۲۲۵، نیز ملاحظہ ہو: الکامل فی التاریخ ۳/۵

<sup>۲</sup> ملاحظہ ہو: الکامل فی التاریخ ۳/۵

### عَظِيمٌ ﴿٢٥﴾

(۹) راہ اللہ عز و جل میں جانیں فدا کرنے کی خاطر مسلمانوں کا اشتیاق :

چوتھی علامت کے بارے میں اپنی گفتگو کا اختتام حضرت عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ کی ایک تقریر کے ساتھ کرتا ہوں جو انہوں نے شاہ اسکندر یہ مقوص کے سامنے کی اور جس میں انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی محبت کے سچے دعوے داروں کے ان جذبات صادقة کا اظہار کیا جو کہ وہ فتنہ کی سر کوبی اور دین حق کی سر بلندی کی خاطر اپنی جانوں کو نچحاور کرنے کے بارے میں رکھتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں :

”ہم میں سے ہر ایک صبح و شام اپنے رب تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شہادت نصیب فرمائے۔ اور اس کو اس کے وطن اور اہل و عیال کی طرف واپس نہ پلٹائے۔ ہم میں سے کسی کی بھی منزل پہنچنے نہیں۔ ہم سب تو اپنے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر چکے ہیں۔ اور ہماری منزل تو آگے ہے۔“ ۳۶

قارئین کرام! اب سوال یہ ہے : کیا ہم ایسے ہی ہیں ؟

اے ہمارے رب جی و قیوم! ہم سب کو ایسے ہی جذبات صادقة عطا فرم۔  
آمین یا رب العالمین



## ایک ضروری تنبیہ

### شانِ مصطفیٰ ﷺ کے بیان میں راہِ اعتدال سے نہ ہٹنا

یہاں اس بات کی تنبیہ کرنی ضروری ہے کہ کچھ لوگ رسول اللہ ﷺ کی محبت کی آڑ میں راہِ اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں اور آپ ﷺ کے بارے میں ایسے اوصاف بیان کرتے ہیں جن کا ذکر نہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور نہ خود آنحضرت ﷺ نے۔ بلکہ بعض لوگ تو اس بارے میں اس حد تک بے اعتدالی کا شکار ہوتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے لیے الیسی صفات کا ذکر کرتے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہیں۔

اگر ان حضرات کو الیسی بے اعتدالی سے منع کیا جائے تو وہ آنحضرت ﷺ سے بے پناہ محبت کے دعوے کو اپنی بے اعتدالی کے لیے وجہ جواز قرار دیتے ہیں اور منع کرنے والوں کو الزام دیتے ہیں کہ ان کے دل آنحضرت ﷺ کی محبت سے خالی ہیں۔

اور وہ خود اس حقیقت سے چشم پوشی کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اپنی تعریف میں مبالغہ آرائی اور دروغ گوئی سے روکا ہے۔ امام بخاری حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ : ”میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ : ”میری تعریف میں اس طرح مبالغہ آرائی نہ کرنا جس طرح نظرانیوں نے ابن مریم علیہ السلام کی تعریف میں مبالغہ آرائی کی۔ درحقیقت میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔“ تم (میرے بارے میں) کہو : ”اللہ کا بندہ اور

رسول۔، ملہ

آنحضرت ﷺ کی مدح و شنا میں راہ اعتدال سے تجاوز کرنے والے اس بات کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں کہ آپ ﷺ نے اس بات سے شدت سے روکا کہ آپ کے لیے ایسی صفات ذکر کی جائیں جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مختص ہیں۔ جب ایک شخص نے آپ ﷺ سے کہا کہ وہ ہی ہو گا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا اور آپ چاہیں گے تو آپ نے اس کو ایسی بات کہنے پر سختی سے ڈانٹا۔ امام احمد حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے کہا:

”ماشاء اللہ و شئت“ (وہ ہو گا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا اور آپ چاہیں گے)

آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک بنادیا ہے؟ (اس کی بجائے یہ) کہو: ”ماشاء اللہ وحدہ“ (وہ ہو گا جو تھا اللہ تعالیٰ پسند کرے گا) ۱۳۴ اسی طرح جب دو بیکیوں نے رسول اللہ ﷺ کی موجودگی میں یہ کہا کہ: ”هم میں وہ نبی ہے جو آنے والے کل کی باتوں کو جانتا ہے“ تو آنحضرت ﷺ نے ان کو ایسی بات کہنے سے روک دیا۔

امام ابن ماجہ حضرت ربع بنت معوذ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: ”میری شادی کی صبح رسول اللہ ﷺ (ہمارے ہاں) تشریف لائے۔ دونھی بچیاں چنگ بدر میں قربان ہونے والے میرے رشتہ داروں کے بارے میں اشعار پڑھ رہی تھیں۔ اسی دوران انہوں نے کہا: ”وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ“ (ہم میں ایک ایسا نبی ہے جو کل کو ہونے والی بات سے آگاہ ہے)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایسے مت کہو۔ جو کچھ کل ہو گا اس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا۔“ ۱۳۵

۱۳۴. صحیح البخاری ۶/۷۸۴  
۱۳۵. المسند ۳/۲۵۳ شیخ احمد محمد شاکر نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو)

ہامش المسند ۳/۲۵۳

۱۳۶. سنن ابن ماجہ ۱/۲۵۰

اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: "ایسی بات نہ کو۔ اس سے پہلے جو بات کہہ رہی تھی وہ ہی کہتی جاؤ۔" ۱

رسول اللہ ﷺ کی محبت کے بعض دعوے دار آپ کی قسم کھاتے ہوئے کہتے ہیں: "نبی ﷺ کی قسم، رسول اللہ ﷺ کی قسم۔" وہ اس بات کو فراموش کر دیتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے خود اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانے سے منع فرمایا ہے۔ امام بخاری نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ نے باپوں کی قسم کھانے سے منع فرمایا ہے۔ جس کسی نے قسم کھانی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔" ۲

نبی کریم ﷺ سے محبت کے دعوے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ﷺ کے لیے ایسی صفات کا ذکر کیا جائے جن سے آپ نے خود روکا ہے۔ آنحضرت ﷺ سے پچھی محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کیا جائے اور جن باتوں سے روکا ہے ان سے علیحدگی اختیار کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَمَا أَءَيْتُكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنَّكُمْ عَنْهُ فَأَنْتُمُ هُوَ أَعْلَمُ﴾ ۳

ترجمہ: "اور جو تمہیں رسول دیں اس کو تھام لو۔ اور جس سے تمہیں منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔"

اے ہمارے رب رحیم و کریم! ہم سب کو اپنے رسول کریم ﷺ کی ایسی محبت نصیب فرمajo آپ کو پسند ہے۔ آمین یا حی یا قیوم



## خاتمه

اللہ رب العالمین کا دل کی گمراہیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ایسے ناکارے کو یہ کتاب پچھے کامل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب ان ہی سے عاجزانہ دعا ہے کہ وہ اس حقیر کوشش کو قبول فرمائیں۔

اس کتاب پچھے میں بیان کردہ باتوں کا خلاصہ یہ ہے :

۱: ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ سے اپنی جان، والدین، اہل و عیال، مال و دولت اور ہر چیز سے زیادہ محبت کرے۔

۲: رسول کریم ﷺ سے دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت، دنیا میں لذتِ ایمان اور آخرت میں آنحضرت ﷺ کی ہم نشینی کے حصول کے اساب میں سے اہم سبب ہے۔

۳: نبی کریم ﷺ کی محبت کی علامتیں ہیں۔ جن میں سے مندرجہ ذیل چار نشانیوں کا ذکر اس کتاب پچھے میں کیا گیا :

۱: آنحضرت ﷺ کے دیدار اور صحبت کے حاصل کرنے کی شدید خواہش اور آپ ﷺ کے دیدار اور صحبت سے محرومی دنیا کی تمام چیزوں کی محرومی سے زیادہ گراں اور شاق ہونا۔

۲: آنحضرت ﷺ پر جان و مال نچادر کرنے کے جذبات سے اپنے سینے کو لبریز پانا۔

۳: آنحضرت ﷺ نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرنا، اور جن باتوں سے منع فرمایا ہے ان سے باز رہنا۔

۴: سنت مصطفیٰ ﷺ کی نصرت و تائید کرنا اور آپ ﷺ کی لائی ہوئی شریعت حقہ کے دفاع کی خاطر ہمہ وقت مستعد اور تیار رہنا۔

۳: حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آنحضرت ﷺ سے پچی محبت کرنے والے تھے۔ ان کی نگاہوں میں آنحضرت ﷺ کا دیدار اور صحبت دنیا اور دنیا کے سارے مال و متاع سے زیادہ قیمتی تھی۔ وہ آنحضرت ﷺ پر جان و مال پچھاوار کرنے میں اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ آنحضرت ﷺ کی اتباع میں وہ ضرب المثل تھے۔ تائید سنت اور دفاع شریعت کی خاطر اپنی قیمتی جانوں کو قربان کرنے کے لیے وہ ہمہ وقت مستعد اور تیار رہتے تھے۔

۵: کوئی مسلمان آنحضرت ﷺ کی محبت کی آڑ میں راوی اعتدال سے تجاوز نہ کرے۔ آپ ﷺ کے متعلق ایسی صفات بیان نہ کرے جو قرآن و سنت میں نہیں۔ قرآن و سنت میں بیان کردہ صفات سے تجاوز آنحضرت ﷺ کی محبت کی علامت نہیں بلکہ گمراہی ہے۔

اس موقع پر میں تمام مسلمانان عالم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ رسول اللہ ﷺ سے اسی طرح حقیقی اور پچی محبت کریں جس طرح حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کرتے تھے۔ صرف محبت کے دعوے پر اکتفانہ کریں اور نہ ہی آپ ﷺ کی محبت کی آڑ میں راوی اعتدال سے تجاوز کریں۔

و صلی اللہ تعالیٰ علی نبینا و علی آلہ و اصحابہ و اتباعہ و  
بارک و سلم و آخر دعوانا أَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔



## فہرست المصادر والمراجع

- ۱- ((ایسنر التفاسیر)) للشيخ أبي بکر جابر الجزائري. الطبعة الأولى ۱۴۰۷ھ.
- ۲- ((البداية والنهاية)) للحافظ ابن كثير. ط: مكتبة المعرفة بيروت. الطبعة الثانية ۱۳۹۴ھ.
- ۳- ((بلغ الأمانى من أسرار الفتح الربانى)) للشيخ أحمد عبد الرحمن البنا. ط: دار الشهاب القاهرة بدون الطبعه وسنة الطبع.
- ۴- ((تاریخ الإسلام)). للحافظ الذهبی بتحقيق د. عمر عبدالسلام تدمري. ط: دار الكتاب العربي بيروت. الطبعة الأولى ۱۴۰۷ھ.
- ۵- ((تاریخ خلیفة بن خیاط)). بتحقيق د. أکرم ضیاء العمري. ط: دار طیۃ الرياض. الطبعة الثانية. ۱۴۰۵ھ.
- ۶- ((تاریخ الطبری)) المسماً ((تاریخ الأمم و الملوك)) للإمام ابن حجر الطبری بتحقيق الأستاذ أبي الفضل إبراهیم. ط: دار سویدان بيروت بدون سنة الطبع.
- ۷- ((تفسير القرطبی)). المسماً ((الجامع لأحكام القرآن)) للإمام أبي عبد الله القرطبی. ط: دار إحياء التراث العربي بيروت. سنة الطبع ۱۹۶۵م.
- ۸- ((تفسير الكشاف)) لأبي القاسم جار الله الزمخشري. ط: دار المعرفة بيروت بدون الطبعه و سنة الطبع.
- ۹- ((جواجم السیرة)) للإمام ابن حزم بتحقيق د. إحسان عباس و د. ناصر الدين الأسد الناشر: حدیث اکادمی فیصل آباد باکستان. سنة الطبع ۱۴۰۱ھ.
- ۱۰- ((زاد المعاد في هدی خیر العباد ﷺ)) للإمام ابن قیم الجوزیة. ط: مؤسسة الرسالة بيروت و مکتبة المنار الإسلامية الكويت. الطبعة الرابعة عشر ۱۴۰۷ھ.
- ۱۱- ((سیر اعلام النبلاء)) للحافظ الذهبی. ط: مؤسسة الرسالة بيروت. الطبعة الثانية،

١٤٠٢ هـ.

١٢ - ((السیرة النبوية وأخبار الخلفاء)) للإمام ابن حبان البستى بتضليل الحافظ السيد عزيز بك وجماعة من العلماء. ط: مؤسسة الكتب الثقافية بيروت. الطبعة الأولى،

١٤٠٧ هـ.

١٣ - ((السیرة النبوية)) للإمام ابن هشام بتقديم وتعليق طه عبد الرؤوف سعد. ط: مكتبة الكليات الازهرية الأزهر، بدون الطبعة وسنة الطبع.

١٤ - ((السیرة النبوية الصحيحة)) للدكتور أكرم ضياء العمري. ط: مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة. سنة الطبع ١٤١٢ هـ.

١٥ - ((شرح النووي على صحيح مسلم)) للإمام النووي. ط: دار الفكر بيروت، سنة الطبع ١٤٠١ هـ.

١٦ - ((الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية)) للإمام الجوهرى. ط: دار العلم للملايين بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٩ هـ بتحقيق الشيخ أحمد عبد الغفور عطار.

١٧ - ((صحيح البخارى)) (المطبوع مع فتح البارى) للإمام البخارى. نشر و توزيع: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء و الدعوة و الإرشاد الرياض، بدون سنة الطبع.

١٨ - ((صحيح سنن أبي داود)) باختصار السنن، و صحيح أحاديثه الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى. الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض. الطبعة الأولى، ١٤٠٩ هـ.

١٩ - ((صحيح سنن ابن ماجة)) اختصار الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى، نشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض. الطبعة الثالثة، ١٩٨٦ م.

٢٠ - ((صحيح سنن النساء)) باختصار السنن، و صحيح أحاديثه الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى. الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض. الطبعة الأولى، ١٤٠٩ هـ.

- ٢١- ((صحیح مسلم)) للإمام مسلم بن الحجاج القشيری بتحقيق الشیخ محمد فؤاد عبدالباقي. نشر و توزیع: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. الرياض، سنة الطبع ١٤٠٠ھ.
- ٢٢- ((الطبقات الکبری)) للإمام ابن سعد. ط: دار بيروت و دار صادر بيروت، سنة الطبع ١٣٨٨ھ.
- ٢٣- ((عمدة القاری شرح صحیح البخاری)) للعلامة بدرالدین العینی. ط: دار الفكر بيروت، بدون الطبعه وسنة الطبع.
- ٢٤- ((غريب الحديث)) للإمام ابن الجوزی بتحقيق د. عبد المعطی أمین قلعجی . ط: دار الكتب العلمیة بيروت۔ الطبعة الأولى، ١٤٠٥ھ.
- ٢٥- ((فتح الباری)) للحافظ ابن حجر. نشر و توزیع: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الرياض، بدون سنة الطبع.
- ٢٦- ((الفتح الربانی لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل)). للشيخ أحمد عبد الرحمن البنا. ط: دار الشهاب القاهرة، بدون الطبعه وسنة الطبع.
- ٢٧- ((فتح مصر و أخبارها)) لأبی القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بتقدیم و تحقیق الأستاذ محمد صبیح. توزیع: مکتبة ابن تیمیۃ القاهرة، بدون الطبعه وسنة الطبع.
- ٢٨- ((الکامل فی التاریخ)) للإمام ابن الأثیر. الناشر: دار الكتاب العربي بيروت. الطبعة السادسة.
- ٢٩- ((لسان العرب المحيط)) للعلامة ابن منظور الإفريقي. (إعداد و تصنیف: یوسف خیاط). ط: دار لسان العرب. بيروت، بدون الطبعه وسنة الطبع.
- ٣٠- ((مجمع الزوائد و منبع الفوائد)) للحافظ نور الدین الهیثمی. ط: دار الكتاب العربي بيروت. الطبعة الثالثة، ١٤٠٢ھ.
- ٣١- ((مختصر تفسیر ابن کثیر)) (اختصره و علّق عليه الشیخ محمد نسب الرفاعی).

- ط: مکتبة المعارف الرياض. الطبعة الخامسة، ١٤٠٨ هـ.
- ٣٢- ((المستدرك على الصحيحين)) للإمام أبي عبد الله الحكم. ط: دار الكتاب العربي  
بيروت، بدون الطبعه و سنة الطبع.
- ٣٣- ((المسند)) للإمام أحمد بن حنبل بتحقيق الشيخ أحمد بن محمد شاكر. ط: دار  
المعارف بمصر. الطبعة الثالثة.
- ٣٤- ((مسند أبي يعلى الموصلى)) بتحقيق و تحرير الأستاذ حسين سليم أسد. ط: دار  
المأمون للتراث دمشق. الطبعة الأولى، ١٤٠٤ هـ.
- ٣٥- ((معجم البلدان)) للإمام ياقوت الحموي بتحقيق الأستاذ فريد عبد العزيز الجندي  
ط: دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة الأولى، ١٤١٠ هـ.
- ٣٦- ((منحة المعبد في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود)) للشيخ أحمد عبد الرحمن  
البنا. الناشر: المكتبة الإسلامية بيروت. الطبعة الثانية، ١٤٠٠ هـ.
- ٣٧- ((الموطأ)) للإمام مالك بتحقيق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي. ط: عيسى البابي  
الحلبي وشركاه. سنة الطبع ١٣٧٠ هـ.
- ٣٨- ((النهاية في غريب الحديث و الأثر)) للإمام ابن الأثير بتحقيق الأستاذين / طاهر  
أحمد الزاوي و محمود محمد الطناحي. ط: المكتبة الإسلامية، بدون سنة الطبع.



## مصنفوں کی دیگر تصنیفات

عربی:

- |                     |  |
|---------------------|--|
| الطبعة الخامسة      | ١ - التدابير الواقعية من الزنا في الفقه الإسلامية  |
| الطبعة الثالثة      | ٢ - التدابير الواقعية من الربا في الإسلام  |
| الطبعة الثانية عشرة | ٣ - حب النبي ﷺ و علاماته   |
| الطبعة السادسة      | ٤ - الحسبة : تعريفها و مشروعيتها و جوبها   |
| الطبعة الثانية      | ٥ - تاريخ الحسبة في العصر النبوي و عصر   |
|                     | الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم   |
| الطبعة الرابعة      | ٦ - شبہات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  |
| الطبعة الخامسة      | ٧ - الحرث على هداية الناس<br>(في ضوء النصوص و سير الصالحين)                              |
| الطبعة الخامسة      | ٨ - من صفات الداعية : اللين والرفق   |
| الطبعة الثانية      | ٩ - مسؤولية النساء في الأمر بالمعروف و النهي<br>عن المنكر (في ضوء النصوص و سير الصالحين) |
| الطبعة السابعة      | ١٠ - مفاتيح الرزق (في ضوء الكتاب والسنة)   |
| الطبعة الثامنة      | ١١ - فضل آية الكرسي و تفسيرها  |
| الطبعة الثانية      | ١٢ - من صفات الداعية : مراعاة أحوال المخاطبين<br>(في ضوء الكتاب والسنة)                  |
| الطبعة الثامنة      | ١٣ - أهمية صلاة الجمعة<br>(في ضوء النصوص و سير الصالحين)                                 |
| الطبعة الأولى       | ١٤ - حکم الإنكار في مسائل الخلاف   |

۱۵۔ قصہ بعثت أبي بکر جیش أسامہ رضی

الطبعة الأولى

الله عنهم (دراسة دعوية)

۱۶۔ الاحتساب على الوالدين

الطبعة الأولى

مشروعیتہ و درجاتہ و آدابہ

الطبعة الأولى

۱۷۔ الاحتساب على الأطفال

اردو ترجمہ :

۱۔ رزق کی کنجیاں کتاب و سنت کی روشنی میں  
بار پنجم

۲۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جیش اسامہ  
رضی اللہ عنہ کو روائہ کرنے میں دروس اور فضیحیں زیر طبع



## رزق کی کنجیاں


اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے درج ذیل سوالات کے جوابات ہیں:

- ۱۔ کیا استغفار و توبہ، تقویٰ، توکل اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے فارغ ہونا رزق کی فراوانی کے اسباب میں سے ہے؟
- ۲۔ استغفار و توبہ، تقویٰ، توکل اور عبادت کے لئے فارغ ہونے سے کیا مراد ہے؟
- ۳۔ کیا توکل اور عبادت کے لئے فارغ ہونے سے مراد حصول رزق کے لئے کوشش کا ترک کر دینا ہے؟
- ۴۔ کیا صد رحمی رزق کی کشادگی کا سبب ہے؟
- ۵۔ صد رحمی کی حقیقت کیا ہے؟ نافرمانوں کے ساتھ صد رحمی کی کیفیت کیا ہو گی؟
- ۶۔ انفاق فی سبیل اللہ، شرعی علوم کے حصول کی غرض سے وقف ہونے والوں پر خرچ کرنے، اور کمزوروں کے ساتھ احسان کرنے کا حصول رزق کے ساتھ کیا تعلق ہے؟
- ۷۔ کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنا حصول رزق کے اسباب میں سے ہے؟



# رزق کی کنجکاوی

قرآن و سنت کی روشنی میں



کل رضائل الہمی

ایسکی بیت پر فرمایا تھا کہ خدا کو اکٹھے نہیں رکھ سکتے

اَذَا تُرْجِعُوا نَفْسَكُمْ كَمْ جَنَّةُ الْوَالهِ